


پاکستانی دفاتر میں  
افرادی انتظام

معین الرحمن صدیقی

مقدمة قومی زبان۔ اسلام آباد

پاکستانی دفاتر میں  
افرادی انتظام



معین احمد صدیقی



مقدارہ قومی زبان ۔ اسلام آباد  
۶۱۹۹۲

جملہ حقوق محفوظ بیں

سلسلہ مطبوعات ۲۷۰

عالمی معیاری کتاب نمبر ۹۶۹-۳۷۹-۱۰۸-۸



## پیش لفظ

سرکاری دفاتر میں افرادی منصوبہ بندی، عملہ بندی اور استقامی امور کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ دفتری کارکردگی کو سبھر بتانے اور اپل کاروں کی استعداد کار میں اضافہ کا انحصار انھی عوامل پر ہوتا ہے۔ مقدارہ نے دفتری امور میں مواد خواندگی کی فرمائیں اور نہاد اردو کی رفتار کو تیز تر کرنے کے لئے متعدد اقدامات کیے ہیں تاکہ مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکی۔ چنانچہ اس مقصد کی حصول کے لئے اردو میں ایسی کتابیں پیش کی جا رہیں ہیں جو نہ صرف دفتری امور کو آسان انداز سے پیش کر سکیں بلکہ دفتری تربیتی اداروں میں تدریسی مقاصد کو بھی پورا کر سکیں۔ زیر نظر کتاب میں، پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی، اسامیوں کی درج بندی، ملازمین کی بہتری اور محکمانہ ترقی سے متعلق تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے مذکورہ بالا جملہ ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا اور اس لحاظ سے یہ ایک مفید کتاب ثابت ہو گی۔

ڈاکٹر جمیل جالی



ایس۔ ش۔ پرنٹر راویلینڈی

ڈاکٹر جمیل جالی،

(صدر نشین)

مقدارہ: قومی ربان، ۱۶۔ ڈی (عربی)

بلو ایبریا، اسلام آباد۔

طبع اول: ۱۹۹۳ء

ایک بارہ

روپہ

محمد بخش باشمی

طبع

ناشر

ڈاکٹر جمیل جالی،

## فہرست

۷	پہلا باب افرادی انتظام کی ضرورت
۸	(الف) افرادی انتظام کی تعریف
۹	(ب) ادارے کا تصور اور ضرورت
۱۰	(ج) تنقیمی ڈھانچے سے متعلق مطالعات
۱۱	(د) نتائج
۱۱	دوسرा باب منصوبہ بندی
۱۲	(الف) افرادی قوت کی منصوبہ بندی
۱۳	(ب) پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی
۱۴	تیسرا باب تحریزی کار
۱۵	چوتھا باب عملہ بندی
۱۶	(الف) عملہ بندی
۱۷	(ب) اسامیوں کی درجہ بندی
۱۸	(ج) اسامیوں کا مالیاتی پہلو
۱۹	(د) بھرتی
۲۰	(ه) محاکمانہ ترقی اور انتخاب
۲۱	(و) اصطلاحات کی تعریف
۲۲	(ز) نمونہ قواعد بھرتی
۲۳	(ح) مسلح امواج کے افسران کی سول ملازمت میں بھرتی
۲۴	پانچواں باب امتحان اور انتخاب
۲۵	(الف) امتحان
۲۶	(ب) شے ملازمین کا انتخاب
۲۷	چھٹا باب تربیت
۲۸	(الف) نوعیت اور مقاصد
۲۹	(ب) تنظیم اور تربیت

## پہلا باب

### افرادی انتظام کی ضرورت

#### (الف) افرادی انتظام کی تعریف

افرادی انتظام کی تعریف مختلف مایرین نے مختلف انداز سے کی ہے۔ ایک مصنف نے اس کی تعریف ہوئی گئی ہے کہ افرادی انتظام ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے نئے ملازمین کو منتخب کیا جاتا ہے اور پرانے ملازمین کی خدمات سے اس طرح استفادہ کیا جاتا ہے جس سے ن صرف ان کی دفتری کارکردگی میں اضافہ ہوتا رہے بلکہ پیداوار بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ مختصر یہ کہ انسانی خدمات اور دفتری تعلقات کے باقی عرضت کو افرادی انتظام کا نام دیا جاتا ہے۔ صلاحیت کی تلاش اور یعنائش وصف اور مقدار دونوں اعتبار سے کی جاتی ہے اور عملی کو بہترین کام کرنے پر ایہاریت کی ضرورت کو واضح طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں افرادی انتظام سے متعلق یوٹ سی کتابوں میں Spoils System اور Spoils Man جیسی اصطلاحات یعنی پڑھنے کو ملتی ہیں۔ جنہیں امریکہ کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی اصطلاح سے مراد کامیاب جماعت کے حامیوں کو سرکاری منصب عطا کرنے کا دستور اور دوسرا اصطلاح سے مراد وہ فرد جو اس دستور سے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اگر ایسے فرد کو افرادی انتظام سے باہر رکھنے کا خصوصی ذکر نہ بھی کیا جائی تو بھی یہ بات اس میں منضم تصور کی جائی گی۔ اس لیے کہ اگر لیاقت اور صلاحیت کے اصول کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت دی جائی تو مطلوبہ مشتبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان سب باتوں کے علاوہ افرادی انتظام سے جو تصور ایہرنا ہے وہ ایک منحر ک فوت کا ایک ایسا انتظام ہے جو دور حاضر کی حکومتوں کے لئے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ افرادی انتظام کی جگہ ہم انتظام عمد کی اصطلاح بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے مراد ایک ایسا انتظام جس کے ذریعہ ہم افراد عمد سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق بہتر انداز میں کام لیتے ہیں۔

#### (ب) ادارے کا تصور اور ضرورت

مذکورہ تعریف کی روشنی میں ایک وسیع تر افرادی پروگرام پر عمل درآمد

۲۳	(ج) وضع تربیت
۲۵	(د) اغراض و مقاصد
۳۶	(e) پاکستان میں تربیت کا نظام
۴۹	ساتوان باب: انتظامی علاقے اور میدانی خدمات
۴۹	(الف) صدر مقام اور میدان
۴۹	حکومتی اور انتظامی علاقے
۵۰	(ج) حکومتی علاقوں کی تشکیل کا تعین کرنے والے عوامل
۵۱	(د) حکومتی اور انتظامی علاقوں کی موزونیت کے معیارات
۵۱	(e) میدانی تنظیموں کے نمو کی وجہات
۵۲	آہوائی باب: کارکردگی
۵۲	(الف) مقصد اور توعیت
۵۴	(ب) نظام تشخیص عمل
۵۶	(ج) میعادی ریبورٹ عمل
۵۷	(د) سول ملازمت میں طریقہ کار
۵۸	(e) تشخیص کارکردگی کا سرکاری نظام
۵۹	نوائی باب: ضابطہ اخلاق
۶۷	دسوائی باب: نظمات
۷۱	کیارہوائی باب: انصباطی اقدامات اور طریقہ کار
۷۵	بارہوائی باب: سرکاری ملازمین اور تعلقات عامہ
۷۹	تیرہوائی باب: انتظامی اصلاحات
۸۳	چودہوائی باب: برطانوی بند میں سول ملازمت
۹۵	صدمیہ: کل پاکستان ملازمت
۱۰۱	فریٹک اصطلاحات (انگریزی/اردو)
۱۱۷	کتابیات
	تینوں باب کا ترتیب
	لستہ مراجع (سالا)
	لستہ مراجع (ب)

ویہر نے اس عقلی قانونی تنظیم کو بیوروکریسی کا نام دیا جو اس کے خیال میں تنظیم کی سب سے بالادست اور موثر شکل ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ جب ایک بار مختلف سطحون پر دفتر کے کاروبار منصی کا تعین ہو جاتا ہے تو ادارہ افراد کا پابند ہوتے بغیر چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یون پیش کی جا سکتی ہے جسے ایک لمبے دورانی کے کھلیل میں مختلف ایکٹر آئے ہیں اور کچھ عرصے تک کام کر کے چل جاتے ہیں مگر کھلیل جاری رہتا ہے۔

بعد کے مصنفوں نے جسے بیورو کریسی کا Day-Functions کہا ہے جیسے زبردستی یا سازیاز کی ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے کچھ افراد کا بیٹت محاز (Authority) اور اس کے اختیار (Power) کو متبدل کئے طور پر یہ جا استعمال کی امکانی صورت یا وہ جھگڑے جو تنظیمی قواعد کے ذاتی توضیح سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ویہر کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے تنظیمی رویہ کے مروجہ نمونے کا ذکر تفصیل سے کر دیا ہے لیکن زیرسطح ایک غیر رسمی نمونہ ہوتا ہے جو کم ابھ نہیں۔ لوگ کام میں سماجی طور سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اور ان سرکریوں میں حصہ لیتے ہیں جو مروجہ نظام کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود بیتت محاز اور اس کے قانونی جواز کے تصور کا تعارف تنظیموں کے مطالعے کے سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔

#### (د) نتائج

تحقیقات کے ذریعے تنظیمی رویہ اور انتظامیہ کے مندرجہ ذیل عمومی نتائج سامنے آئے ہیں :

- ۱۔ منظیموں یا افسروں کی اداروں کی مجموعی ماہیت سے اگاہی ضروری ہے۔
- ۲۔ منظیموں کے لئے ادارے میں غیر رسمی نظاموں کے وجود اور اہمیت اور ان کے رسمی نظاموں کے تعلقات کا علم ضروری ہے۔
- ۳۔ تنظیموں کی ساخت سے متعلق ایسے کلیاتی اصولوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اندروںی اور بیرونی تبدیلوں کے درمیان اثر اندازی کا حساب رکھنے کے لئے درزی کے سلے ہوتے چست کہروں کی طرح ہوں۔
- ۴۔ ساخت ایسی ہوتی جائے جس سے تنظیم میں مختلف گروہوں کے درمیان ممکنہ حد تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو فروغ حاصل ہو سکے اور جہاں تک ممکن ہو اندروںی گروہوں کے درمیان آوریش کی صورت پیدا نہ ہو۔

کہ لے سب سے ضروری چیز ایک معقول انتظامیہ ڈھانچے کی تشكیل ہے۔ ایسا ڈھانچہ جس میں اس پروگرام میں شریک تمام شرکاء کی ذمہ داریوں کا واضح تعین کر دیا گیا ہو۔ ایک اچھی منصوبہ بندی سے تشكیل دے گئے ادارے میں تکرار سعی (Duplication Of Efforts) ہے۔ جو سب متعلقہ لوگوں کے لئے بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے اور اتحاد عمل کے اصول پر کام ہوتا ہے۔ ایک ناقص منصوبہ بندی سے تشكیل پائی ہوئی ادارے میں کوئی بھی واضح طور سے نہیں چلتا کہ اس سے کس بات کی موقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مقصد مقاصد کے ساتھ کام کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ہم آپنکی کی بجائی ذمہ داریوں کی توضیح پر مسلسل نوک چھوٹک اور غلط فہمی رہتی ہے۔ اس لئے بر سرکاری سرگرمی کی طرح افرادی انتظام کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اسے موثر ادارے کے ذریعے چلا جائے۔

#### (ج) تنظیمی ڈھانچے سے متعلق مطالعات

سب سے پہلے تنظیمی ڈھانچوں سے متعلق بری تحقیق مکس ویہر (Mix Weber) نہ کی تھی۔ یہ کام دوہری اہمیت کا حامل تھا۔ کیونکہ اس نے ائمہ تحقیقات کی بنیاد رکھی اور اختیار (Authority) اور اس کے قانونی جواز کا بہت اہم سوال اٹھایا۔ ویہر نے اختیار کی قسموں کے تین زمرے تجویز کے۔

۱۔ کرسمنیک (Charismatic)، اس میں اختیار تنظیم یا ادارے کے زینماں کی شخصیت سے نکلتا ہے اور مذہبی، سائنسی اور صنعتی تنظیموں میں گاندھی، چرچل اور فورڈ وغیرہ جیسے افراد کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

۲۔ روایتی (Traditional)، اس کی بنیاد نظری اور رواج ہے۔ سب سے ادنی مثال مطلق العنان حکومت کی ہے۔ صنعت میں خاندانی کمپنیوں کی مثالیں متی بیس جہاں قیادت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہتی ہے خواہ ابتدا ہی میں بینا تحریک سے کوئی اختیار حاصل نہ کر سکی۔

۳۔ عقلی قانونی (Rational-Legal): اس کو جمہوری معاشرے اور کام کی رسمی تنظیموں کے لئے معیاری بنیاد کہا جاتا ہے۔ اصل مقصد اختیار کا نظام مرتب (Hierarchy of Levels) ہے جس کی بنیاد اس مفروضت پر ہے کہ افسران اعلیٰ پیش و روانہ یا اعلیٰ انتظامی تحریک، قابلیت اور مہارت، یا دونوں کے اتصال کے ذریعے بہ نسبت اپنے ماتحتوں کے بہتر کام الجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اختیار کو اگر قواعد و منواب کے مجموعے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

## دوسرہ باب

### منصوبہ بندی

#### (الف) افرادی قوت کی منصوبہ بندی

افرادی قوت کی منصوبہ بندی کا اطلاق عام معنی میں مقیناً اس وقت کیا گیا ہوگا جب سے لوگ مختلف کام کرنے کے لیے گروہی شکل میں اشتراک عمل پر کامزی ہوئی ہوں گے۔ اس لیے یہ تصور تباہ نہیں ہے جو چیز نہیں ہے وہ ہے موجودہ دور کی فریتگ انتظام میں امن اصطلاح کی شمولیت، اس کی فیصلہ کی ابمیت سے روز افزاں اکاپی اور انسانی وسائل کے استعمال تک پہنچنے کے لیے سائنسی طریقہ کا فروع۔ یہ شعبہ جیسا کہ اسے ہم سمجھتے ہیں گرستہ عالمی جگہ کے فوراً بعد کے مطالعے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔

کسی ادارے کے مادی وسائل کی منصوبہ بندی کی ابمیت کیلئے بھی زیر بحث نہیں رہی ہے اور مالی وسائل اور سرمایہ کاری کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ مستحسن بنائی کی کافی کوشش کی گئی ہے۔ متناقص طور پر انسانی وسائل نے ہو بالآخر سب سے زیادہ اہم اور سب سے کم قابل پیش کوئی اثناء ہے اسی سطح پر توجہ حاصل نہیں کی۔ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی جانب بامعنی ترقی اور حالیہ روپی میں تبدیلی کے باوجود لوگوں میں اس کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پائی جاتی ہیں۔ اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شک کرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ ایک طریقہ عمل جسمی آسان ہونا جاہیز یعنی اسے غیر ضروری طور سے پیچیدہ بنایا گیا ہے، یا یہ کہ بہت سے قابل تغیر عوامل ایک غیر یقینی مستقبل میں کوشش کی مقابلے میں منافع کو مشکوک فدر کا بنایا گیا ہے۔ تاہم اسے خیالات افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی مانیت اور مقاصد کی بارے میں غلط فہمی ظاہر کرتے ہیں۔ افرادی قوت کی منصوبہ بندی قطعی طور سے ایک حصوصی میدان میں چکا ہے جس میں مابین شماریات، معافیات اور دوسرے لوگ شعبہ جاتی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم بر ادارے میں مستلزم کا اس سے تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے افسران جو پالیسی اور تنائی کی حصول کے لیے وسائل کی پابندیوں (Commitments Of Resources) اور احتساب کی ذمیدار ہوتے ہیں۔

مجموعی انتظام کا تعلق، خطرے اور یہ یقینی کہ ماحول میں فیصلہ کرنے سے ہے۔ موثر انتظام کا مقصد غیر کامل (Imperfect) دنیا میں موجود خطرے اور یہ یقینی

۵۔ اعتبار اور کشادہ دلی کی ایسی مجموعی قضا فائم کرنی چاہیے جس سے واضح طور سے معین مقاصد تمام ملازمن تک پہنچانے جائز اور نفسیاتی ثہکے (یعنی تنظیم کیا ڈھے سکتی ہے اور اسے کی چیزوں کی توقع ہے) کی وضاحت ہوئی چاہئے۔

۶۔ آخر میں زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادارے خود تجزیاتی صلاحیت کو فروغ دیں جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل کی تشخیص کر سکیں اور انہیں حل کر سکیں۔

نکتہ (۲)

### (ب) پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بنندی

حصہ الف میں افرادی قوت کی منصوبہ بنندی کی نظم اور دیگر متعلقہ باتوں کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اس میدان میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے جیسا کہ یہ جانتے ہیں ایک آزاد معیشت میں افرادی قوت کی منصوبہ بنندی کا انحصار بری حد تک بنڈی کی طلب اور رسید کی قوتوں پر ہوتا ہے۔ اس ماحول میں روزگار، تربیت اور تعلیم کی ترتیب اور سطح کا تعین افراد کی اپنی یہندے پر اور ذرائع کی مطابق ہوگا۔ ان حالات میں روزگار کی حیثیت معاشی نمو کے مقابلے میں اتفاقی اور منمنی رہ جاتی ہے۔ لہذا افرادی منصوبہ بنندی کی نوعیت اور وسعت مختلف معاشی نظام میں مختلف ہوگی۔

پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بنندی کی ترویج مختلف شعبوں (Sectors) میں طلب (Demand) اور رسید (Supply) کو ظاہر کرنے کی حد تک پیشوں اور تعلیمی سطح دونوں کے اعتبار سے پہلی بار تیسرے پنج سالہ منصوبے کے ساتھ شروع ہونی۔ اس وقت پاکستان جیسے متعدد ممالک میں روزگار سے متعلق تجربوں کی بنیاد پر خاکے نیار کیسے جاتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی تقاضی نمونہ ملک میں واگر اور معتبر اطلاعات نہ ہونے کی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا۔

کچھ ہی عرصہ قبل سابق ذکر سے پہلے کہ عالیٰ بینک کی مدد سے ایک پیشے سے متعلق پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ افرادی قوت کے ان خاکوں کے بنانے میں مختلف شعبوں اور مجموعی ترقیاتی پیداوار کے شرح نمو پر مخصوص انحصار کیا گیا تھا۔ یہ خاکے اس خطرونوں کی قیاس پر مبنی تھے کہ روزگار میں نمو کا تعلق پراء راست پیداوار میں نمو سے ہوتا ہے۔ یہ خاکے جو پانچوں اور چھٹے پنج سالہ منصوبے کی لیے تیار کیے گئے تھے صورت حال کے حقائق کے مطابق ثابت نہیں ہوئے اور جو خاکے چھٹے پنج سالہ منصوبے کے لیے ۱۹۸۵ء کے آخری حصے میں تیار کیے گئے تھے اسپس ترک کرنا پڑا اور افرادی قوت ڈیپرنس میں منصوبہ بنڈی ڈیپرنس کے مشورے سے ایک نئی مسق شروع کی اور اب تک تیار کیے گئے خاکے آزمائشی چلے آ رہے ہیں اور سابق خاکوں کے مقابلے میں کافی کم رہی دکھانی دی ہے۔

محضراً افرادی قوت کی منصوبہ بنندی میں تیار کی جو اب تک زیادہ نہ افرادی قوت کی طلب اور رسید کی تجاویز تیار کرتی رہی ہے اور پیشے سے متعلق تربیتی پروگرام تشکیل دیتی رہی ہے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ افرادی قوت کی ترقی اور استعمال اب بھی کم و بیش ایک منصوبہ ہے اور اسے معاشی نمو کی محض ایک

کی کنفیت کو بہترین اطلاعات کے حصول اور ایک نظام کے استعمال سے کم کرنا ہے۔ افرادی قوت کی منصوبہ بنندی جو انسانی وسائل کے استعمال میں سب سے ایم میدان ہے اور اسی فلسفے کا اظہار ہے۔ جو بھی شکوک رہ جائیں، مضبوط اشارے اس بات کے ملتے ہیں کہ افرادی قوت کی منصوبہ بنندی نے جو قوت رفتار اب حاصل کر لی ہے وہ انتظامی مہارت میں زیادہ سے زیادہ طلب ہوتی جائے کی جو تغیرات اور دباؤ معاشری، حرفاں اور سماجی عوامل لاتے ہیں وہ بر قسم کے اداروں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ مردوں کے اخراجاتی اور انسانی پہلوؤں کا مطالعہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کریں۔ اسی بنا پر وفاقی حکومت اس موضوع کو زیادہ اہمیت دیتی رہی گی اور اس میں صورتاً ایک بڑا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔

افرادی قوت کی عملانہ منصوبہ بنندی کا تعلق افراد کی طلب اور رسید اور ان مسائل سے ہے جو ان عوامل کی تطبیق سے پیدا ہوتے ہیں جب کہ خصوصی مابرین (Specialists) کے درمیان افرادی قوت کی منصوبہ بنندی کے عمومی مقاصد اور بیانی اجزاء کے بارے میں مکمل اتفاق ہے۔ بعض اوقات ان کے موجودہ نظاموں کی شکل کے متعلق کچھ اختلافات نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی نظام ہو اس کی بنیاد طلب اور رسید کی تجزیات اور ان منصوبوں اور فیصلوں پر رکھنی پڑتی ہے جو ان تجزیات کا تعاقب کرتے ہیں۔

افرادی منصوبہ بنندی کی نظام کی خاص عناصر مدرج ذیل ہیں۔

- ۱۔ ادارے کی مقاصد کو متعین یا دوبارہ متعین کرنا۔
- ۲۔ افرادی قوت کی صحیح منصوبہ بنندی کی بنیادی ضروریات کا تعین اور اس پر عمل درآمد کرنا۔

۳۔ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مستقبل کی صورت (Demand) کی تشریح کرنا۔

۴۔ موجودہ وسائل اور مستقبل کے وسائل کی دستیابی کی تشریح کرنا۔

۵۔ افرادی قوت کے منصوبے کو تفصیل سے تیار کرنا اور اس پر عمل کرنا یعنی قابلِ معیاد یا طویلِ معیاد اوقاتی بیمانوں سے متعلق طلب اور رسید کے اندارے کو متوازن کرنا۔

۶۔ نظام کی مانیٹرینگ اور اس فیض صورت کے مطابق ترمیم کرنا۔

ان میں سے پہلے دو مراحل تمہیدی یا ابتدائی ہیں اور آخری تین خود منصوبے کی تفصیلی تیاری اور عمل درآمد سے متعلق ہیں۔

### ۳۔ قومی کونسل برائے افرادی قوت

دوسرے پنج سالہ منصوبے (۱۹۶۰ء-۱۹۶۵ء) میں ایک قومی کونسل برائے افرادی قوت تشكیل دیتے گئی سفارش کی کئی اور ۱۹۶۱ء میں ہی اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسے مندرجہ ذیل امور سونپتے گئے۔

(الف) افرادی قوت کے تحفظ، تربیت، ترقی اور موثر استعمال کے لئے ایک قومی یالیسی تشكیل دینا۔

(ب) اعلیٰ سطح کے افراد کی ضروریات پوری کرنے، دستکار اور پندرہ کارکن کی تربیت، فاضل مزدوروں کی نوکری اور نوجوانوں کے لئے بھی ایک مجموعی پروگرام ترتیب دینا۔

(ج) بہتر انتظام کے ذریعے محنت کشون کا بہتر استعمال، افرادی قوت کے دفاعی اور سول استعمال، بنیادی اطلاعات کی تکمیل اور افرادی قوت کی منصوبہ بندی کے تجربے کے لئے منصوبہ فیار کرنا۔

(د) مختلف ایجنسیوں کے غرائص منصوبی کو ایک عمدہ پروگرام میں ہم آہنگ کرنا۔

کونسل جو مندرجہ بالا فرائض منصوبی کی ذمہ دار تھی افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی جانب ایک بڑی جست تھی۔ کونسل ایک بین الوراثی تنظیم تھی اور اس کی تین خصوصی ذیلی کمیٹیاں تھیں جن میں اعلیٰ سطحی افرادی کمیٹی، قومی تربیتی بورڈ اور روزگار بورڈ برائی ترقی ملازمت جیسی کمیٹیاں شامل تھیں۔ تابیم کونسل کو سخت مالی اور انتظامی دہاؤ برداشت کرنا پڑا اور وہ موثر طریقے سے کام نہ کر سکی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کے لئے خاطر خواہ کام نہ کیا جا سکا۔

### ۴۔ قومی کمیشن برائے افرادی قوت اور تعلیم

قومی کونسل برائے افرادی قوت کی ناکامی کے بعد ۱۹۶۸ء میں قومی کمیشن برائے افرادی قوت اور تعلیم کا قیام عمل میں آیا جس کے امور حوالہ مندرجہ ذیل تھے۔

(الف) منک کے انسانی وسائل کی تربیت اور استعمال کے لئے ایک پروگرام عمل تیار کرنا۔

(ب) منک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لئے قلیل المیعاد اور طویل المیعاد افرادی قوت کی ضروریات معین کرنا، خصوصاً معیشت کی مختلف شعبوں

### ۵۔ ایجاد ایک اعلیٰ سطحی (ب)

مذکورہ بالا صورت حال ہمیں مختلف سطحون پر ملک میں جو بھی افرادی قوت کی منصوبہ بندی مشینری موجود ہے اس کے ادارتی اور تنظیمی ڈھانچوں کے ارتقاء کے سوال کی طرف لاتی ہے اور اسی عوامل کو شناخت کرنے کی دعوت دیتی ہے جنہوں نے افرادی قوت کی طلب اور رسید کے محدود دائیے میں خاکے بنانے میں بھی انہیں غیرموثر کر دیا ہے۔

کسی تنظیم با ادارتے کی کارکردگی اس کے تشكیل دینے کے مقاصد کے حوالے سے ہی معین کی جا سکتی ہے۔

### ۱۔ پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی

#### کی ارتقاء کا ایک مختصر جائزہ

پاکستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی تاریخ کو مختصر ہے تاہم مختلف مراحل سے گزر کر وزارت افرادی قوت اور اس کے مقابل صوبوں میں دوسرے اداروں کے وجود میں آئے ہے عروج کو پہنچی۔

۱۹۳۷ء میں مرکز میں صرف ایک ادارہ روزگار افرادی قوت (Manpower Employment) کے نام سے موجود تھا جو کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران فوج سے سبک دوش کیے گئے لوگوں کی تربیت اور سول ملازمت کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ تربیت اور ملازمت ذیلی کی یہ خدمت تربیتی مراکز اور دفاتر روزگار کے ذریعے دی جاتی تھی جن کا ملک میں ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ ۱۹۶۲ء کا آئینہ نافذ ہونے کے بعد یہ ذمہ داریان صوبوں کو منتقل کر دی گئیں۔

### ۲۔ قومی کمیشن برائے تعلیم

پاکستان میں سب سے پہلا قومی کمیشن برائے تعلیم ۱۹۵۸ء میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کو موجودہ تعلیمی نظام کا جائزہ لینے اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے تجاویز/سفارشات مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کمیشن نے اپنی ریپورٹ ۱۹۵۹ء میں پیش کی جس میں منجدہ اور چیزوں کی یہ سفارش کی گئی کہ سائنس اور فنی مضمون پر روز دے کر تعلیم کو ایک نیا رخ دیا جائیں تاکہ پیشہ ور پندرہ افراد زیادہ تعداد میں پیدا ہو سکیں جن کی ملکی ترقی کے لئے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی سمت پہلی شعوری کوشش نہیں۔

- ۱۔ افرادی قوت اور ملازمت سے متعلق قومی پالیسی اور منصوبہ بندی۔
- ۲۔ بیرونی ممالک میں ملازمت اور ترکی وطنی۔
- ۳۔ مندرجہ ذیل سے متعلق پالیسی :
  - (الف) فوج سے سکدوش ہونے والوں کی آبادکاری اور ملازمت، اور
  - (ب) لازمی افراد رجسٹریشن آرڈیننس ۱۹۶۸ء کے تحت لازمی افراد کی رجسٹریشن۔
  - (ج) قومی اور بین الاقوامی استعمال کے لیے افرادی قوت اور روزگار کی اعداد و شمار ترتیب دینا۔
- خلیج کے ملکوں میں افرادی قوت کی بڑھتی ہوئی برآمد کم پیش نظر ایک نیا قانون ترک وطنی ایکٹ (Emigration Act) ۱۹۷۶ء میں پاس کیا گیا جس کی پیروی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تین ادارے قائم کی گئیں :
 

(Bureau Of Emigration & Overseas Employment)	۱۔ ترک وطنی اور سمندر پار روزگار کا بیورو
(Overseas Employment Corporation)	۲۔ کارپوریشن برائے سمندر پار ملازمت
(Overseas Pakistani Foundation)	۳۔ سمندر پار پاکستانی فاؤنڈیشن
- بیورو کا خاص کام بیرونی ممالک میں پاکستانیوں کی ملازمت میں باقاعدگی پیدا کرنا، شرائط ملازمت کو تحفظ دینا اور پاکستانی مردوں کی فلاخ کی نگرانی کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن کا قیام کمپنیز ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ ان کا کام روزگار کی موضع پیدا کرنے میں نجی شعبے سے مقابلہ کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن کا کام نقل و ملن کرنے والی کارکنوں کے خاندان کی خبرگیری اور ان کے لیے فلاخی پروگرام مرتب کرنا ہے۔
- مذکورہ بالا اداروں کے علاوہ افرادی قوت ذوبیں کے زیرانتظام دو اور محکمے ایک خود اختار ادارہ ہے۔ صوبائی سطح پر افرادی قوت کے معاملات سے نہیں کہ لیے وفاقی اداروں کے ہم پدہ ادارے نہ ہوتے کہ برابر ہیں۔ صرف صوبہ پنجاب اور جو صوبائی محکمہ مختت (Labour Department) کے ماتحت ہیں۔ یہ تین نو عوایت کے امور سراجام دیتی ہیں۔
- ۱۔ بزر مدد افرادی قوت کی تربیت اور صوبہ کے مختلف فنی تربیتی اداروں کا انتظام۔ اس ضمن میں ای کو وفاقی وزارت افرادی قوت کے ادارے قومی تربیتی بیورو کی رہنمائی حاصل ہے۔

- میں پرمندی اور مہارت کی لحاظ ضرورت۔
- (ج) اس بات کا جائزہ لینا کہ موجودہ نظام تعلیم اور تربیت کا ادارتی ڈھانچہ کہاں تک پرمند افراد پیدا کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے اور اس میں ضروری تدبیلوں کی سفارش کرنا تاکہ حال اور مستقبل کی ضروریات کمیت اور خوبی کی لحاظ سے پوری ہو سکیں۔
- (د) عمومی اور فنی تعلیم و تربیت کی درمیان توازن کا تعین کرنا، تاکہ انسانی وسائل کی ترقی میں صایع سے اجتناب کیا جاسکے۔
- (e) پالیسی سے متعلق تدبیں کی نشاندہی اور مناسب ترغیبات پر عور کرنا تاکہ تسلیل کے ساتھ کمتر تعداد میں باصلاحیت افرادی قوت کی رسید کو یقینی بنایا جا سکے۔
- (و) ملک سے موجودہ اخراج الہوال (Brain Drain) کی کمیت کا تعین کرنا اور اسے روکنے کی لیے تدبیں تجویز کرنا۔ ۱۹۶۹ء میں لیبر پالیسی کے اعلان کے بعد کمیشن کو صرف ایک سال کے مختصر وجود کے بعد رسمی ریورٹ پیش کرنے کا موقع دیے بغیر نور دیا گیا۔

- ### ۵۔ مطالعاتی گروہ برائے افرادی قوت و روزگار
- ۱۹۷۶ء کی اوائل میں کابینہ ذوبیں نے ملک میں بے روزگاری کی بکریہ ہونے مسئلہ کے پیش نظر ایک ذیلی کمیٹی قائم کی جس کا کام بے روزگاری کے مسئلہ کا مطالعہ کرنا اور تدارکی تدبیں تجویز کرنا تھا۔ قومی کونسل برائے افرادی قوت کی فنی مدد اور معتمدی حمایت سے جو مطالعاتی گروہ کابینہ ذوبیں کی ذیلی کمیٹی نے قائم کیا تھا وہ میدان عمل میں آ گیا اور ایک ریورٹ کا مسودہ تیار کیا گیا۔ ریورٹ میں اعلیٰ اخبار خیال کیا گیا کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی موجودہ مشینری غیر مؤثر ہے۔ لہذا افرادی قوت کے میدان میں ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے ایک مناسب مشینری کے قیام کی سفارش کی گئی۔

- ### ۶۔ افرادی قوت ذوبیں کا قیام
- مطالعاتی گروہ کی سفارش کے پیش نظر حکومت نے جون ۱۹۷۲ء میں افرادی قوت ذوبیں (Man Power Division) تشكیل دی تاکہ بے افرادی قوت کی منصوبہ بندی اور ترقی پر توجہ مبذول کرے۔ وزارت افرادی قوت کا منشور اپنی مقاصد میں دور رہا ہے۔ اس منشور میں شامل خاص خاص امور مندرجہ ذیل ہیں:

## تیسرا باب

### تجزیہ کار

تجزیہ کار افرادی انتظام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سارے طریقے عمل کی لازمی بناد کی حیثیت رکھتے ہیں جو کام کی مؤثر انعام دہی، بہتری، انتخاب، تشخیص انعام دہی (Performance Appraisal)، عملی کی تربیت اور پختگی کی طرف رینماشی کرتے ہیں۔ یہ قدر بندی کار (Job evaluation) اور دوران کار صحت و سلامتی کے نظام کے لئے شرط اولیں ہیں۔ چونکہ یہ سب چیزوں لوگوں کے دوران کار انتظام میں ہے جو ایم ہیں اس لئے جب تک کہ تجزیہ کار کی اہمیت اور اس کے اصول صحیح نہ لیے جائیں اور مہارت کی ساتھ ان پر عمل نہ کیا جائیں ادارے کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوگی۔

یہاں یہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تجزیہ کار نے اپنے ترکیبی جزو اور متعلق عناصر بیان کرنے کے لئے اپنے اصطلاح خود وضع کی ہے۔ نامہ افرادی انتظام کی کتابوں کے سرسری مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بیان اور مطالب کے لحاظ سے یکسانیت کا وجود نہیں ہے۔ تجزیہ کار کے تین عناصر کے طور پر جو اصطلاحات مستعمل ہیں ان میں تفصیل کار (Job Description) تصریح کار (Job Specification) اور تصریح شخص (Person Specification) کی اصطلاحیں شامل ہیں۔ انتشار اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مصنفوں ای سرخیوں کی تحت ان اصطلاحات میں مختلف چیزوں شامل کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک فاصلہ مصنف نے ان تینوں اصطلاحات کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔

۱۔ تفصیل کار (Job description): یہ ایک کیفیت نامہ ہوتا ہے جس میں احرزا کار، فرائض، مقاصد، معیار اور مجموعی کام کم معاشر اور ماحولی حالات شامل ہوتے ہیں۔

۲۔ تصریح کار (Job Specification): یہ کام کی مؤثر انداز انعام دہی کے لئے جس میں پندرہ مندی، قابلیت اور روپوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تصریح ہوتی ہے۔

۳۔ تصریح شخص (Person specification): کسی کام کی مؤثر انداز سے انعام دہی کے لئے جس قسم کے ادمی کی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے کام کی توصیح ہوتی ہے۔ اس کا خاص استعمال افراد کے انتخاب میں ہوتا ہے۔

۲۔ افرادی قوت کے میدان میں شماریات جمع کرنا جن میں سالانہ تحقیق عمل اور دوسرے جائزے جو صوبہ کی روزگاری اور تربیتی صورت حال ظاہر کرتے ہیں ہیں۔

۳۔ دفاتر روزگار کا انتظام اور ان کے روزگار کے اعداد و شمار کی تدوین سے متعلق کام۔

سرحد اور پلوچستان میں گورنمنٹ افرادی قوت اور تربیت کے محکمے نہیں ہیں۔ نامہ جہاں تک پیشہ و رانہ تربیتی پروگراموں کا متعلق ہے ان میں یہ صوبے پھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ان صوبوں میں مختلف تربیتی مراکز کام کر رہے ہیں۔ چاروں صوبوں میں ایک ایک تربیتی بورڈ ہے جو نیشنل ٹریننگ آرڈیننس کی تحت ائمیں ادارے کے طور پر قائم ہیں۔

### ۷۔ نتائج

مذکورہ اقدامات، وزارت افرادی قوت اور اس کے متعدد ذیلی اداروں کی موجودگی، کروڑوں روپیے کے متوالی اور غیر متوالی اخراجات، تربیتی انتظامات اور اس سلسلے میں بہت سے دوسرے اقدامات کے باوجود جو نتائج سامنے آئیں وہ جوہدہ افراد نہیں ہیں۔ مطلوب مقاصد حاصل کرنے میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی اہمیت کا شعور اور اکابری پیدا کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ مختلف وفاقي اور صوبائی ایجنسیوں کی درمیان ضروری معلومات کے تبادلے، تعاون اور رابطہ کا فقدمان ہے۔ پاکستان کے مددوروں، بین مددوں اور مایبوروں کو روزگار دلانے میں بھی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ بیرون ملک ای لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی معاملاتی میں بھی کسی قابل ذکر کامیابی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ان کی میں اپل خاندان کے لئے جو فلاحتی پروگرام مرتب کئے گئے تھے ان سے علاً بہت کم لوگوں کو فائدہ پہنچا۔

یماری حکومت مذکورہ صورت حال سے پوری طرح آکا ہے اور اس سلسلے میں مختلف سطحوں پر بہتری کے لیے جن اقدامات کی سفارشات کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

یہ تینوں ہی عناصر کوئی معیاری صورت پیش نہیں کرتے، مختلف اداروں میں ان کے استعمال مختلف ہیں۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے بے دوسرے صنعتی اور انتظامی لحاظ سے ترقی باقاعدہ نظام نہیں ہے وفاقی حکومت میں ان تینوں میں سے جو اصطلاح کسی حد تک استعمال کی جاتی ہے وہ تفصیل کار (Job Description) ہے لیکن اس کی کوئی جامع تعریف یا واحد شکل ملنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بماریے ہائی اسمیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کیے فواعد، شرائط اور دوسری ضروریات کا وجود ہی نہیں۔ وفاقی حکومت کے تحت بر اسامی پر بھرتی کے لیے بھرتی کیے فواعد کا ہونا لازمی ہے۔ یہ فواعد جو میں تقرر کی شرائط جیسے تعلیمی معیار، تحریر، عمر وغیرہ درج ہوتی ہیں، عمل ذویں اور فیڈرل میلک سروس کمیشن کی منظوری سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسامی کمیشن کے ذریعہ پر کرنا ہو تو ایک معیاری قارم جسے فارم مطالبه (Requisition Form) کہتے ہیں بھر کر کمیشن کو پہنچنا یہ رہتا ہے۔ بھرتی کیے فواعد اور فارم مطالبه میں اتنی تفصیلات درج ہوتی ہیں جو تفصیل کار کا بخوبی نعم البدل کہی جا سکتی ہے۔

اس ضمن میں یہ بتا دینا ہے محل نہیں بوجا کہ اب سے تقریباً بارہ سال قبل تفصیل کار کے مسلسلے میں حکومت پاکستان نے کچھ مابین کی خدمات کیں ہیں اسے حاصل کی تھیں اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا تھا مگر کچھ دنوں کے بعد وہ کام مکمل کیے بغیر واپس چلے گئے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ صحیح صورت حال کا علم انتظامی خدمات ذویں کو بوجا۔

جہاں تک بعید دونوں اصطلاحات کا تعلق ہے یعنی تصریح کار اور تصریح شخص، تو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ فی الحال علمی مطالعے تک ہی محدود ہیں اور بمارے افرادی انتظام میں تقریباً غیر مستعمل ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں کچھ مزید کہنا بے سود ہے۔

## چوتھا باب

### عملہ بندی

#### (الف) عملہ بندی

کسی تنظیم یا ادارے کی کامیابی کا دارومندار صحیح خطوط پر کی گئی عملہ بندی پر ہے۔ ان لوگوں کی دستیابی کا کام جو ایسے علم، بترمندی اور روپے کے حاکم ہوں یا جو میں اس کی نشوونما کی خلائق استعداد ہو جو کسی ادارے کو محورہ کام کرنے کے قابل ہا سکے تاکہ وہ اس کی اغراض و مقاصد حاصل کر سکے یقیناً ابہمیت کی حامل ہے۔ تایم سیارا طریقہ عمل (Process) شروع سے آخر تک نہایت پیچھہ ہے اور موٹر طریقہ سے اس پر عمل بیڑا ہونے کے لیے نہ صرف طریقہ عمل کی نووعت کو بلکہ اس کے جزوی مراحل کے باہمی تعلق اور عمل میں منظم اطلاق کو بھوپی سمجھو لیا جائے جیسا کہ ہر نظام میں ہوتا ہے، بر افرادی عنصر کی ابہمیت کے علاوہ کسی مرحلے سے غفلت یا اس کو شامل نہ کرنا یورمے نظام پر یقیناً بیڑا اثر ذاتی گا۔

اس نظام کے خاص اجزاء اور ان کا باہمی تعلق درج ذیل ہے۔  
۱۔ اغراض و مقاصد: تنظیم یا ادارے کے اغراض و مقاصد کا تعین جو کہ اس ادارے کی پابندیوں (Commitments) کے لیے انسانی وسائل کی ضرورت کی تشخیص کرنے کی بنیاد ہے۔

۲۔ منصوبہ بندی: افرادی قوت کی منصوبہ بندی کا یہ وہ طریقہ عمل (Process) ہے جس سے مطلوبہ انسانی وسائل کی حریق اور کمیت (Quality and quantity)

کا تعین اور منصوبہ بندی ان کی دستیابی کی روشنی میں کی جاتی ہے۔

۳۔ تجزیہ کار: یہ کاموں سے متعلق ضروری اطلاقات فراہم کرتا ہے جو کہ بھرتی اور انتظامی عمل کی بنیاد ہے۔

۴۔ بھرتی: جو افرادی منصوبہ بندی کے بعد ادارے کی ضرورت کے مطابق انسانی وسائل کے حصول کے لیے ایک مثبت عمل ہے۔

۵۔ انتخاب: جو نظام کا آخری مرحلہ ہے جب ادارہ درخواست گزاروں کی موروثیت کا جائزہ لیتا ہے جو بھرتی کی عمل کے نتیجے میں سامنے آتا ہے اس اجزا کا تفصیلی ذکر اکلی ابواب میں آئیں گا۔

(Gazette) میں چھپتے تھے۔ ان کی ذمہ داریاں اور اختیارات بھی زیادہ تھے۔ درجہ سوم کے سول ملازمین درجہ اول اور درجہ دوم کے افسروں کی نگرانی میں روزمرہ کام انجام دیتے تھے۔ درجہ چہارم کے ملازمین سے ادنیٰ اور جسمانی کام لیا جاتا تھا۔ ملازمین کی اکٹریت کا تعلق درجہ سوم اور درجہ چہارم سے ہوتا تھا۔ بھی صورت حال اب بھی ہے کہ انتظامی اصلاحات کے بعد درجہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔

### ۳۔ درجہ بندی کے فوائد

- (الف) درجہ بندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انتظام، منظم اور سهل ہو جاتا ہے کسی ایک درجے میں بھرتی کے لئے ایک بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ان سب کی کم سے کم قابلیت ایک بھی بتوتی ہے۔ ایک بھی پہمانہ تنخواہ ہوتا ہے اور ایک بھی فرائض اور ذمہ داریاں بتوتی ہیں۔ اس طرح ملازموں کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشترک سلوک ممکن ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی منی اسامی وضع کی جاتی ہے تو ان کی تصریحات آسانی سے معلوم کر لی جاتی ہیں اور اس درجہ کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں وہ بتوتی ہے۔
- (ب) اسامیوں کی درجہ بندی سے ان سے متعلق تنخواہ اور دوسرے متولی اخراجات کا تخمینہ آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان سے ملازمت کی دوسری شرائط کو باضابطہ بنائی میں بھی سہولت ہوتی ہے کیونکہ بر درجہ کے لیے یہ آسانی سے مقرر کی جا سکتی ہیں۔
- (ج) یہ مخصوص اسامیوں کا پہمانہ تنخواہ وغیرہ مقرر کرنے میں یہ اصولی اور جانبیاری کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بر اسامی کی تنخواہ اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ برابر کام کے لیے برابر تنخواہ کے اصول کو یقینی بناتی ہے۔
- (د) ہر ملازم کا خط ترقی واضح رہتا ہے اور وہ پہلے سے ہے جان سکتا ہے کہ اسے ائمہ کس چیز کی توقع رکھنی چاہے۔
- (e) یہ بر درجے کی اندر اجتماعی شعور اور عزت نفس کو بڑھاتی ہے جس سے ملازموں کا خود صہدہ بہتر ہوتا ہے۔
- (و) یہ بر اسامی کی فرائض اور ذمہ داریوں کے موروث نہیں پر منحصر ہوئی ہے اور اس طرح تکمیل کار کے معروضی معیار مقرر ہو جاتے ہیں۔

### ۴۔ درجہ بندی کی نقصانات

- (الف) یہ ملازمتوں میں درجاتی شعور کو فروع دیتی ہے اور جمہوری مساوات،

### (ب) اسامیوں کی درجہ بندی

#### ۱۔ درجہ بندی سے کیا مراد ہے؟

افرادی انتظام میں اسامیوں کی درجہ بندی (Classification Of Posts) سے مراد ان اسامیوں کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی بنیاد پر وسیع درجوں میں انکشما کر دینا۔ وہ اسامیاں جن کے فرائض اور ذمہ داریاں ایک جیسی ہوں انہیں قطع نظر اس بات سے کہ وہ کس وزارت یا محکمے میں بین ایک درجے میں رکھا دیا جاتا ہے۔

#### ۲۔ ملازمتوں کی درجہ بندی کا سابقہ طریقہ

سابقہ مرکزی ملازمتوں کی درجہ بندی کا نظام عمودی اور افقی دونوں طرح کا تھا۔ ملازمتوں کی افقی درجہ بندی ان کے کام کی نوعیت کے مطابق کی گئی تھی اور اسی تصور کے تحت ملازمتوں کو مندرجہ ذیل تین خاص زمروں میں رکھا گیا تھا۔

- (الف) عام یا انتظامی (Generalist/Administrative) ملازمت جیسے سی ایس ہے۔
- (ب) فعلی یا عملی (Functional) ملازمتیں جیسے محاسبہ و حسابات، انکم ٹیکس،
- وغیرہ۔

(ج) ماہرین کی ملازمت جیسے صحت، انجینئرنگ وغیرہ۔ سی ایس ہی افسران کو ایک کام سے دوسرے کام پر لکایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں جا سکتے تھے اور مرکز سے صوبوں میں ان کا تبادلہ ہو سکتا تھا اور ان کے بر عکس یہ افسران نہ صرف انتظامی، مالیہ اراضی وغیرہ کے کام سے متعلق تھے بلکہ حکومت کی صنعتی، اقتصادی اور تجارتی کاموں سے بھی ان کا کام متعلق ہوتا تھا۔ ای میں سے کچھ عدلیہ میں بھی خدمات انجام دیتے تھے۔ اس کے بر عکس محاسبہ و حسابات، امدادی ٹیکس، کشم ملازمتوں کے ارکان وہی کام کرتے تھے جو ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اپنی پوری ملازمت کے دوران پہنچنے میں رہتے تھے۔

ملازمتوں کی افقی درجہ بندی کی بنیاد ان سے متعلق کام کی اہمیت، نوعیت اور ذمہ داری پر بتوتی ہے۔ افقی اعتبار سے ملازمتوں کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چہارم۔ درجہ اول اور درجہ دوم کے ارکان اس لحاظ سے جویڈی (Gazetted) افسران تھے کہ ان کے نام جریدے

الجهاؤه ہوتے ہیں۔ تنخواہوں کی حد کا تعین کرنے کے لئے بطور رہبر مربوط درجون کے درمیان ۱۰ تا ۲۰ فی صد کی تعلیق معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اس طرح کہ حد کی چوٹی پر تنخواہ کی سطح حد کی تھے سے ۲۰ تا ۵۰ فی صد بلند ہو۔

### ۳۔ تنخواہ کے پہمانے

بر ادارے میں مختلف کاموں کی نوعیت، ابیمیت اور ذمہ داری کے لحاظ سے اسامیاں وضع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان اسامیوں کہے لئے موزوں تنخواہ کے پہمانے تشکیل دی جاتے ہیں۔ یہ کام ادارے کی انتظامیہ کیسر کرتی ہے۔ بعض اوقات اس فیصلے میں انجمی عمل کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ مذکورہ باتوں کے علاوہ تنخواہ کی رقم کا انحصار کسی حد تک داخلی اور خارجی عوامل پر بھی ہوتا ہے جیسے ادارے کی موجودہ شرخ سے زیادہ یا کم دبی کی پالیسی، مختلف درجون کے ملازمین کی مطلب اور رسید اور ادارے کی خوشحالی۔ اس کے علاوہ کمپنی یا ادارے کا محل وقوع ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پہمانہ علاقوں میں تنخواہیں عموماً کم ہوتی ہیں لیکن ترقی کرنے پوئی علاقوں میں تنخواہیں نیز سے بڑھتی ہیں کیونکہ کمپنیاں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہمانہ تنخواہ میں ابتدائی اور انتہائی رقم کا تعین کیا جاتا ہے۔ درمیان میں سالانہ ترقی کی رقم ہوتی ہے۔ پہمانہ تنخواہ کی تجویز تیار کرنے وقت یہ بات ذہن میں رکھی جائیے کہ تنخواہیں ایسی سطح پر ہوں جو موزوں عملی کے لئے کشش رکھتی ہوں۔ درجے کافی لچکدار ہوں تاکہ اس میں میعادی اضافے کی کافی گنجائش ہو۔

### ۴۔ دوسرے فوائد

تنخواہ کے علاوہ ادارے کے ملازمین کو کچھ دیکھ فوائد نقدی یا جنس کی شکل میں دیتے جاتے ہیں جیسے مہنگائی الائنس، سواری الائنس یا کرايد مکان الائنس، مقام کی نسبت سے کوئی حصوصی الائنس وغیرہ۔ دنیا کے تقریباً سب ہی ملکوں میں روز مرہ کی اشتہانی صرف کی قیمتون میں تبریز سے اضافہ ایک معمول ہے اس لیے حقیقی اجرت (سامان اور خدمتوں کی وہ مقدار جو روپیہ خرید سکتا ہے) کم ہو جاتی ہے جب تک کہ اسے مصارف زندگی (Cost Of Living) کے اضافوں سے برقرار رکھا جائی۔ دلیل یہ یہ ہے اس صورت جاتی ہے کہ یہ اضافہ اپنی باری میں اشیاء کی قیمتون کو اور بڑھاتی ہے۔ اس صورت کا مقابلہ کرنے کے لئے دنیا کیوں بہت سے ملکوں، حصوصاً ترقی یاقتہ ملکوں میں نہیں

اتحاد اور خیر سکالی کے لئے مضر ثابت ہو سکتی ہے۔  
(ب) افسرانہ کیسے میں احسان برقراری اور مانحت ملازمین میں احسان کتتری پیدا ہوتا ہے۔

### (ج) اسامیوں کا مالیاتی پہلو

#### ۱۔ اجرت و مشابہہ

اجرت و مشابہہ بظاہر میں معنی الفاظ ہیں مگر عام طور پر اجرت سے مراد وہ معاوضہ ہے جو کسی ادارے میں کام کرنے والوں کو روزینہ کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ مشابہہ یا تنخواہ اس رقم کو کہتے ہیں جو کمپنی کے عملی کو سالانہ یا ماہانہ شرح سے ادا کی جاتی ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں زیادہ تر یہ ادائیگی ماباہم کی جاتی ہے۔

زیادہ تو تنظیموں میں سلسہ مدارج (Hierarchy) کی مختلف سطحوں کی اسامیوں کا مشابہہ ہے عملی کے درمیان تعریق کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس تعریق کی بنیاد صرف اس بات پر نہیں ہے کہ معاوضہ کا حساب کیسے لکایا جاتا ہے بلکہ ملازمین کے فوائد کے پورے ذائقے پر، اور اس بات پر بھی کہ نیچے اور اوپر درجے کے ملازمین کے ساتھ انتظامیہ کیسا سلوک کرتی ہے۔ موجودہ دور میں یہ امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ادارے کا پر ملازم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ایک سے سلوک کی توقع رکھتا ہے۔ اس ضمن میں ملازمین کی انجمیں ابم رول ادا کرتی ہے۔

#### ۲۔ تنخواہ کے ڈھانچے

تنخواہ کے ڈھانچے لچکدار بنائی جاتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ لوگوں کی میعادی اضافی کی گنجائش ہو۔ تنخواہ کے منصرم اس بات کا خیال رکھئے ہیں کہ اس معاملیہ میں یکسانیت ہو اور یہمانوں میں اتنی گنجائش ہو کہ ملازمین کو کاریائی نہایاں انجام دینے پر اس کا صندھ دیا جا سکے۔

زیادہ تر یہمانوں کا تعلق کام کے درجے (Grade) سے ہوتا ہے۔ کام کا اندازہ کرنے (Evaluation) کے بعد درجون کا ایک سلسہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس صحن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پر درجے کے پہمانے ایسے ہوں جو کسی حد تک ایک دوسرے کی اوپر آ جائیں دوسرا غور طلب سوال یہ ہے کہ یہمانوں کی حد (Range) کیا ہوئی چاہیے۔

یہمانوں کے ایک دوسرے پر کسی حد تک تعلیق پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں درجون کے درمیان تبادلے اور ترقیوں کی وجہ سے

## (د) بھرتی

## ۱- نوعیت اور مقصد

انتخاب سے پہلی بھرتی کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کا مقصد بھرتی کے طریق کار کو اس طرح آسان بنانا ہے کہ کم سے کم وقت میں صرف ان امیدواروں کو سامنے لایا جائے جو مطلوبہ شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مقررہ معیار پر پورے اترے ہوں۔ اس طریق کار سے جہاں اجر کو محنتی اور اپل امیدوار مل سکیں گے وہاں ادارے کی کارکردگی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس لئے ان امیدواروں کو بلا یا جائز جو مطلوبہ معیار پر پورا اترے ہوں تاکہ ادارہ ان امیدواروں کے استناد کا جائزہ لیتے میں وقت اور روپیہ صاف نہ کرے جن کی استعداد کام کے لیے مطلوبہ شرائط پوری نہ اترے ہو۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ادارہ کسی اسمی کی تفصیل اور بھرتی کے طریق عمل کی اشاعت میں کتنی ہی محنت اور احتیاط سے کام لے، کچھ درخواستیں ایسے لوگوں کی طرف سے بھی موصول ہوتی ہیں جو مطلوبہ شرائط پوری نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے درخواست گزار اپنی نظرؤں میں متعلق اسمی کو پر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ رجحان ادارے کے بھرتی کیے کام کو غیر ضروری طور پر بڑھا دیتا ہے۔ عملاً بھرتی کے طریق کار کا مقصد خالی اسمی کی لیے صرف ان امیدواروں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے جو حقیقتاً اس اسمی کے لئے موزوں ہوں اور ان کی استناد کا پوشیاری سے جائزہ لینا، تاکہ ایک مختصر فہرست مزید جائز کے لئے انتخاب سے قبل تیار کی جا سکے۔ ان تمام باتوں کی باوجود آخر میں مقصد کے حصول کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ افرادی قوت کی مخصوصہ بندی اور تجربی کارکتری عمدگی سے کی گئی نہیں۔ مختصراً حصے کی معقول بھرتی کا مطلب یہ جانتا ہے کہ کم ذرائع کی ضرورت ہے، کون کوں سے ذرائع دستیاب ہیں اور کہاں اور کیسے انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی منظم بھرتی کے طریق کار کی خاص خاص تفصیلات اور ضروریات کے مطالعہ کی غرض سے بھرتی کے کام کو مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت آسانی سے پرکھا جا سکتا ہے۔

۱- خالی اسمیوں کا تعین۔

۲- ذرائع پر غور۔

۳- اطلاعات کو تیار اور شائع کرنا۔

۴- موصولہ درخواستوں کا جانچنا اور اندازہ کرنا۔

اداروں اور حکومتوں نے تنخواہ کو مصارف زندگی کے اشاریہ سے جوڑ دیا ہے۔ حکومت پاکستان بھی گذشتہ چند سالوں سے اس بالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تنخوابوں میں اضافہ اشیاء صرف کی قیمتیں میں اضافی کی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس اضافی کی رقم ان رقموں کے درمیان یوں ہے جو ملازمین طلب کرتے ہیں اور جو ادارہ پرداشت کر سکتا ہے۔ چونکہ اشیاء صرف کی قیمتیں کے ساتھ ساتھ دوسرا اشیاء اور خدمتوں کی قیمتیں بھی ہر ہجے جاتی ہیں اس لیے ملازمین کو مزید سہولتیں دینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو کراہیہ مکان الاڈنس، سواری الاڈنس، یا سواری وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ منافع ریادہ ہونے کی صورت میں کچھ تجارتی ادارے اپنے ملازمین کو سال میں ایک سے تین تک یونس بھی دیتے ہیں۔

## ۵- تنخوابوں کا سرکاری نظام

سرکاری سطح پر پاکستان میں تنخوابوں کا ایک مربوط نظام موجود ہے۔ ۱۹۷۳ سے قبل تنخوابوں کے سیکڑوں پیمانے تھے۔ مگر ۱۹۷۳ء میں تنخوابوں کی بنیادی پیمانوں کی تفاصیل (کو اس کا اطلاق ۱۹۷۲ء سے ہوا تھا) ان کی تعداد کم ہو کر صرف ۲۲ رہ گئی ہے۔ ان میں سے ۱۱ تا ۱۵ کی پیمانے غیر جریدی اسمیوں کی ہے اور ۱۶ تا ۲۲ کی جریدی اسمیوں کے لئے ہیں۔ پیمانہ ۱ میں نائب قائد، چوکیدار، فراش وغیرہ کی اسمیاں شامل ہیں اور پیمانہ ۲ میں وفاqi حکومت کے معتمد، صوبائی حکومت کے معتمد اعلیٰ شامل ہیں۔ بنیادی تنخوابوں کے علاوہ سرکاری ملازمین کو کچھ بہتے (Allowances) بھی دیے جاتے ہیں جیسے سواری بھنا، کراہیہ مکان بھنا، وغیرہ۔ گرید ۲۰ اور اس سے اوپر گرید کے افسروں کو اسمی کبیر بہتے (Senior Post Allowance) بھی ملتا ہے۔ جنکے ۲۱ اور ۲۲ گرید کے افسروں کو سرکاری اور نجی استعمال کے لئے دوسرا مراتب کی علاوہ سرکاری کار بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ۲۰ اور اس سے اوپر کے پیمانے کے افسروں کے لیے کوہ پر کام کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے توکر کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں میں اضافی کے رجحان کی وجہ سے حکومت وقتاً فوقتاً تنخواہ کے پیمانوں پر نظرثانی بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چند سالوں سے بماری حکومت نے بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح اشیائی صرف کی قیمتیں کے اشاریہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تنخواہ میں کچھ اضافہ کرنے کا طریق اختیار کیا ہے۔ مگر یہ اضافہ برائیہ نام ہوتا ہے کیونکہ ملکی وسائل قیمتیں میں اضافی کی شرح سے تنخوابوں میں اضافی کی اجازت نہیں دیتے۔

(د) اسامیوں کو وضع کرنے اور ان کے تسلسل کی منظوری، وزارت عالیات کی پاکیزگی تغییر کے ساتھ۔

(د) جس ادارے میں مختلف اسامیوں پر اس کا تنظیمی نقشہ (Organizational chart)۔ قواعد بھرتی کا مسودہ عملہ ذوبین کی پدابات کی روشنی میں متعلقہ وزارتیں تیار کر کے عملہ ذوبین کو بھجتی ہیں۔ انہیں آخری شکل عملہ ذوبین اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی منظوری سے دی جاتی ہے۔ پھر اسے منعقدہ وزارت حکومت پاکستان کے غیر معمولی حریدے میں شائع کرتی ہے۔

### ۳۔ سول اسامیوں پر تقرر کے مندرجہ ذیل

#### تین تسلیم شدہ طریقے ہیں

۱۔ ابتدائی تقرر: اس سے مراد وہ تقرر ہے جو ترقی یا تبادلے کے ذریعے نہ ہو۔

۲۔ تقرر بدزیریعہ ترقی: اس کا مطلب یہ کسی تنظیم یا محکمہ میں موجود کسی سول ملازم کی اسی دفتر میں اس کے پیمانہ تنخواہ سے اوپر کے پیمانہ تنخواہ پر فواعد کی مطابق ترقی۔

۳۔ تقرر بدزیریعہ تبادلہ: اس کا مطلب یہ ایک محکمہ یا دفتر میں موجود کسی آدمی کا کسی دوسرے محکمہ یا دفتر میں بدزیریعہ تبادلہ اسی پیمانہ تنخواہ کی اسامی پر تقرر جس پیمانہ تنخواہ کی اساس پر وہ پاکیزگی بنیاد پر ملازم تھا۔

### ۵۔ محکمانہ ترقی اور انتخاب

بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱ تا ۱۵ کی اسامیوں پر جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی دائرہ نظر سے خارج ہیں اور بر بھرتی کے لیے پیمانے کی اسامی پر ترقی اور تبادلے کیے تیے قواعد کا ایک نیا سیٹ جسے قواعد سول ملازمین (تقرر، ترقی اور تبادلہ) ۱۹۷۳ء کہتے ہیں جاری کیا گیا۔ ان قواعد کی خاص باتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱ اور ۲ کی اسامیوں کے علاوہ تمام اسامیوں کو ابتدائی تقرر کے ذریعے پر کرنے کے لیے (خواہ پاکیزگی یا قی الوقتی) مشترکہ کرنا اور بنیادی پیمانہ ۱ اور ۲ کی اسامیوں کو پر کرنے کے لئے دفتر روز کار کو لکھنا چاہیے۔

۲۔ تمام اپل اشخاص کی معاملات کو جانچنے اور سفارشات مرتب کرنے کے لئے

#### ۵۔ درخواست گزاروں کو اطلاع دینا۔

اسن سلسے میں یہ بتا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بماری ملک میں وفاقی سطح پر مندرجہ بالا موضوعات کے مطابق مفصل طریقہ کار موجود ہے، جس کی پابندی سے پیروی کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت کے بر دفتر میں پیشوں خود مختار ادارے باقاعدہ بر اسامی کا نام، تعداد، پیمانہ تنخواہ بھرتی کی قواعد وغیرہ کا ہوتا لازمی ہے۔ اس صایطہ کار کی تکمیل کے بغیر کسی اسامی کو باقاعدہ پر کرنا ممکن نہیں۔ تابم بعض خصوصی حالات میں جن کا ذکر مختلف قواعد میں موجود ہے، کسی اسامی کو فی الواقعی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسامیاں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی دائرة کار میں ہوں مگر وہ صرف چھ ماہ یا اس سے کم کی مدت کے لیے وضع کی گئی ہوں تو انہیں حاکم مجاز کمیشن کے مشورے کے بغیر اشتہار کے ذریعے پر کر سکتا ہے۔

#### ۲۔ سول اسامیوں کے لیے قواعد بھرتی

جبسا کہ پہلی بیان کیا جا چکا ہے قواعد بھرتی کی غیر موجودگی میں کسی اسامی پر تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ۱۹۷۲ء کی انتظامی اصلاحات سے قبل قواعد بھرتی بہت مفصل ہوا کرتے تھے مگر اصلاحات کی بعد ان کو بہت سہل بنایا گیا۔ عملہ ذوبین کی ایک دفتری بندداشت مورخ ۲۹ نومبر ۱۹۷۲ء کے ذریعہ تمام وزارتوں اور ذوبینوں کو بدایت کی گئی کہ آئندہ قواعد بھرتی میں صرف تقرر کے طریقے، تعليمی قابلیت اور تحریک وغیرہ کی تصریح کافی ہوا کرے گی۔

ح۔ اسامیوں کے قواعد بھرتی اس وقت تک وضع کیے گئے تھے انہیں وضع کریں کے مسوڑ، دیا گیا۔ اس ضمن میں تمام وزارتوں کو قواعد بھرتی کا ایک ایک سو سو بھی ارسال کیا گیا تاکہ تھے قواعد وضع کرنے میں انہیں سہولت ہو۔ نہونے کی ایک نقل برائی ملاحظہ اس بات کی آخر میں ضمیم کی طور پر دی یونی ہے۔ بعد میں عملہ ذوبین نے یہ بدایت بھی جاری کی کہ بھرتی کے قواعد سے منطبق ہر نئی تجویز جو اسے بھیجی جائے اس کے بصراء مندرجہ ذیل اطلاعات و دستاویزات کا بونا ضروری ہے۔

(الف) پر کی جانب والی اسامیوں کی تعداد اور رسیدی (Feeding) اسامیوں کی تعداد، اگر کوئی ہو۔

(ب) اسامیوں کی تفصیل کار (Job description)

(ج) جہاں کسی اسامی کو بدزیریعہ ترقی پر کرنا ہو ویاں رسیدی اسامیوں کے قواعد بھرتی، اگر ہوں۔

- ۶۔ مرکزی انتخابی بورڈ (Central Selection Board): اس سے مراد وہ بورڈ ہے جسے وفاقی حکومت بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۹ تا ۲۱ پر ترقی یا تبادلی کے لئے انتخاب کی غرض سے تشکیل دیتی ہے۔
- ۷۔ آزمائش (Probation): کسی ملازمت یا اسمامی پر ابتدائی تقرر جو فی الواقع تقرر نہ ہو آزمائش پر ہوگا، جیسا کہ مقرر کیا جائے۔

- مناسب انتخابی اور ترقی کمیٹیاں تشکیل دیتا۔
- ۲۔ تمام معاملات میں کم سے کم تعلیمی قابلیت اور تجربہ مقرر کرنا اور فی الواقع تقرر کیے معاملے میں کوئی نرمی نہ بردا۔
- ۳۔ تقرر کنندہ حاکم مجاز اگر انتخابی یا ترقی کمیٹی کی سفارش منظور نہ کریے تو اسے نامنظوری کی وجوبات تحریر کرنا اور اپنے سے اعلیٰ افسر مجاز کے احکامات حاصل کرنا۔

## و۔ اصطلاحات کی تعریف

- اسن باب میں استعمال کیے گئی چند اہم اصطلاحات کی تعریف درج ذیل ہے:
- ۱۔ فی الواقع تقرر (Adhoc Appointment): کا مطلب ہے باضایطہ سند یا فیض شخص کا مقررہ اور مختلف طریقے سے اس وقت تک کہ لے تقرر جب تک مقررہ طریقے سے بھرتی نہ ہو جائے۔
  - ۲۔ مقررہ (Prescribed) کا مطلب ہے بدزیعہ قواعد مقرر کیا ہوا۔
  - ۳۔ انتخابی بیسٹ مجاز (Selection Authority) کا مطلب ہے فیڈرل پینک سروس کمیٹی، محکمانہ انتخابی بورڈ، محکمانہ انتخابی کمیٹی یا کوئی دوسری بیسٹ مجاز یا تنظیم جس کی سفارش پر یا جس کے مشورے سے، جیسا کہ مقررہ ہو، کسی تقرر کیا جائے یا ترقی دی جائے۔
  - ۴۔ محکمانہ کمیٹی برائی ترقی (Departmental Promotion Committee): اس سے مراد وہ کمیٹی ہے جو کسی وزارت، ڈپارٹمنٹ، محکمہ یا دفتر میں بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۸ اور اس سے نیچے کی اسمامیوں پر ترقی یا تبادلی کے انتخاب کی غرض سے تشکیل دی جائی ہے۔
  - ۵۔ محکمانہ انتخابی کمیٹی (Departmental Selection Committee): اس سے مراد وہ کمیٹی ہے جو کسی وزارت، ڈپارٹمنٹ، محکمہ یا دفتر میں بنیادی تنخواہ ۱۵ اور اس سے نیچے کی اسمامیوں پر ابتدائی تقرر (Initial Appointment) کے لئے انتخاب کی غرض سے تشکیل دی جاتی ہے۔ ہر وزارت، ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں ایک سے زیادہ محکمانہ کمیٹیاں برائی ترقی و انتخاب ہوتی ہیں۔ ہر کمیٹیاں مختلف وزارتیں وغیرہ عملہ ڈپارٹمنٹ کے مشورے سے بناتی ہیں۔ ہر کمیٹی صحن کم سے کم تین صحن ہوتے ہیں جن میں سے ایک صدر ہوتا ہے۔

حد عمر کی اندر یونا چابیے جو اس اعلان کے جدول میں مذکور ہیں: اس شرط کی ساتھ کہ اچھوت ذات، بدہ مت اور قبائلی علاقوں کی منظور شدہ قبائل، آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات (گلگت، سکردو اور دایہ میر کے اصلاح) سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے معاملے میں عملہ ذوین کی جاری کردہ پدابیات کی مطابق زیادہ سے زیادہ عمر کی حد میں تین سال کی رعایت دی جائی گئی۔

مزید شرط ہے کہ ان سرکاری ملازمین کے لیے جو کم سے کم دو سال کی مسلسل ملازمت پوری کر چکے ہوں، زیادہ سے زیادہ عمر کی حد میں ۵۵ سال کی عمر تک ۱۰ سال تک کی رعایت دی جا سکتی ہے۔

#### ۵۔ آزمائش (Probation)

بذریعہ ترقی تقرر کیے جانے والے اشخاص ایک سال تک آزمائش پر رہیں گے۔ اس مدت میں معقول تحریری وجوہات کی بناء پر کمپی یا اگر ضروری سمجھا گیا، تو توسعی کی جا سکتی ہے جس کی مدت ایک سال سے زیاد نہ ہو، جیسا کہ تقرر کی وقت مقرر کیا جائے۔ آزمائش پر تقرر سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۲ کی دفعہ ۶ سے مشروط ہوگا۔

۶۔ یہ اعلان عملہ ذوین کی رضامندی سے جاری کیا جاتا ہے، ان کی دفتری یادداشت نمبر ۱/۱۶/۷۲/ذی ۵، موخر ۹ اپریل ۱۹۸۰ ملاحظہ ہو۔

#### جدول

(دیکھیے پیرا ۳)

زیادہ سے زیادہ عمر	قابلیت اور تحریر	اسامی کا نام اور بنیادی پیمانہ تنخواہ
سرنشستہ دار	ذکری، ترجیحاً قانونی کام کا تجربہ	۳۰ سال یا
(بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۰۰)	انٹرمیڈٹ، ۴ سال فتوونی کام	کام کا تجربہ یا
میٹرک، ۵ سال فتوونی کام	کیا تجربہ	میں ۵ سال کی ملازمت

#### (ز) نمونہ قواعد بھرتی

حکومت پاکستان

(عملہ ذوین)

اسلام آباد، ۲۳ اپریل ۱۹۸۰ء

#### اعلان

۸/ (آئی) / ۱۳۵ (آئی) / آر۔ او۔

۱۔ قواعد تقرر، ترقی و تبادلہ برائے سول ملازمین، ۱۹۷۳ کے قاعدہ ۳ کے ذیلی قاعدہ (۲) کی پیروی کرنے ہوئے مندرجہ ذیل طریقہ، قابلیت اور دوسروی

شرطانش سرنشستہ دار (Reader) کی اسامی (بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱) زیرا خیار انتظامی وزارت انصاف پر تقرر کے لیے فرار دی جائی ہیں:

۲۔ تقرر کا طریقہ: سرنشستہ دار کی اسامی بذریعہ ترقی پر کی جائی گی، اس شرط کی ساتھ کہ اگر مطلوبہ قابلیت اور تحریر رکھنے والے موزون امیدوار دستیاب نہ ہوں تو ابامی ابتدائی تقرر (Initial Appointment) کی ذریعہ پر کثرتی جائی گی۔

۳۔ شرائط برائے ترقی: نیچے کی کالم کی اسامی پر ترقی کالم ۲ میں تصریح کردہ اسامی پر کام کرنے والے اشخاص میں سے جو کالم ۲ میں مقرر کردہ قابلیت اور تجربی کے مالک ہوں، بذریعہ انتخاب پر کی جائی گی۔

اسامی کا نام	اہل شخص	اہلیت کی شرائط
سرنشستہ دار	محرر کبیر	بطور محرر کبیر صنعتی عدالتون یا خصوصی (بنیادی تنخواہ ۱) (یو۔ڈی۔سی)
		جنون کی عدالتون اور وزارت انصاف کی زیرا خیار انتظامی مددلات (Tribunals)

میں ۵ سال کی ملازمت

۴۔ قابلیت، تجربہ اور حد عمر برائے ابتدائی تقرر ابتدائی تقرر کے لیے امیدوار کی پاس وہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ ہوںا چابیے اور اسے اس

## (ح) مسلح افواج کے افسران کی سول

### ملازمت میں بھرتی

یوں تو مسلح افواج کے افسران سول اسامیوں میں بھیشہ نئے جاتے رہے مگر کم تعداد میں۔ اس کی علاوہ پہلے فوجی افسروں کی سول ملازمتوں میں بھرتی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ فروری ۱۹۸۰ء میں مسلح افواج کے افسروں کے سول ملازمتوں میں داخلی (Induction) اور دوبارہ ملازمت (Re-Employment) کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو باضابطہ بنانے کے لیے ضروری بدایات جاری کی گئیں۔ ان میں سے اہم بدایات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسلح افواج کے افسران جن کی کمیشن کی ملازمت ۸ سال تک ہو وہ مخصوص پیشہ ورائہ گروپوں (Occupational Groups) میں جن کی براء راست بھرتی فیڈرل پلک سروس کمیشن کے سالانہ امتحان کی ذریعہ ہوتی ہے خالی اسامیوں کی ۱۰ فی صد تک بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۶ میں داخل کیے جائیں گے۔

۲۔ داخل اس مقصد کے لیے صدر کے بنائے ہوئے اعلیٰ اختیاری انتخابی بورڈ کے ذریعہ ہوگا۔ بورڈ نہ بھی طے کریے گا کہ منتخب افسران کس کس پیشہ ورائہ گروہ میں داخل کیے جائیں گی۔

۳۔ مختلف گروپوں میں جو افسران داخل کیے جائیں گے اس کی تطبیق اس صوبے کی خالی اسامی پر کی جائے گی جس صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔

۴۔ سول اسامی پر تقرر کے بعد ان کا مسلح افواج سے رشتہ منقطع ہو جائی گا۔ افسروں کو وہی تربیت دی جائی گی جو مقابلے کے نتیجے میں تقرر کیے گئے آزمائشی افسروں کو دی جاتی ہے اور انہیں مقررہ امتحان تربیت کی دوران یا تربیت کی اختتام پر مکمل طور پر پاس کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ تر اسامی پر ان کی ترقی عام قواعد کے مطابق ہوگی۔

۵۔ داخل کیے گئے افسران کا تقدم (Seniority) اس سال سے شمار ہوگا۔ جس سال میں وہ داخل کیے گئے تھے لیکن وہ اس سال کی آزمائشی افسروں سے اوپر رہیں گے جن کے ساتھ تربیت حاصل کی ہوئی۔

۶۔ میجر اور اس کے مساوی عہدوں کے افسر جو مقررہ عمر یا ملازمت کی حد پوری ہوئے پر ریٹائر ہو جائیں یا ریٹائر ہو چکے ہوں وہ مختلف گروپوں کی سالانہ خالی اسامیوں کی ۱۰ فی صد تک بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۸ میں داخلی کیم اہل ہوں گے۔

۹۔ میجر اور مساوی عہدوں کے افسران جو مقررہ عمر یا ملازمت کی حد پوری ہوئے سے قبل ریٹائر ہو جائیں یا ریٹائر ہو چکے ہوں، اور نائب کونسل اور اس سے اوپر اور مساوی افسران جو مقررہ عمر اور ملازمت کی حد پوری کرنے سے قبل یا بعد ریٹائر ہوں یا ہو چکے ہوں تو وہ تین سے پانچ سال تک کے معابرے پر دوبارہ ملازمت کے اپل ہوں گے۔ ان کے معابرے ۶ سال کی عمر تک قابل تجدید ہوں گے لیکن مختلف گروپوں اور کاذروں کی سالانہ خالی اسامیوں کے ۱۰ فی صد تک جیسا کہ مقرر کیا جائیے۔

۱۰۔ معابرے پر بازماموری یہی اعلیٰ اختیاری انتخابی بورڈ کے ذریعہ کی جائیے گی اور بورڈ نہیں یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس گروہ یا کاذر میں بازماموری ہوگی۔ مندرجہ بالا فیصلوں پر عمل درآمد کرنے میں پیش آئے والی پڑی مشکلات کو حل کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو سیکرٹری عمل، سیکرٹری مالیات اور سیکرٹری فانوں پر مشتمل ہے۔

## پانچواں باب امتحان اور انتخاب

### (الف) امتحان

#### ائین پاکستان ۱۹۷۳ء سے اقتباس

(۱) وفاق سے تعلق رکھنے والی معاملات میں پارلیمنٹ اور صوبوں سے تعلق رکھنے والی معاملات میں صوبائی اسمبلی بذریعہ قانون پبلک سروس کمیشن کے قیام اور صابطی کا ابتمام کرے گی۔

(۲) پبلک سروس کمیشن وہ فرانص انعام دے گا جو بذریعہ قانون مقرر کئے جائیں گے۔

#### فیدرل پبلک سروس کمیشن کا قیام

دفعہ بالا کی پیروی کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے ۱۹۷۳ء میں فیدرل پبلک سروس کمیشن ایکٹ، ۱۹۷۳ء پاس کیا جس کی رو سے فیدرل پبلک سروس کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے فیل ملک میں پبلک سروس کمیشن نہیں تھا۔ پہلے بھی پبلک سروس کمیشن نہا۔ فرق یہ یہ کہ فیدرل پبلک سروس کمیشن ایکٹ کے ذریعہ کمیشن کے فرانص منصی کو ۱۹۷۳ء کی انتظامی اصلاحات سے ہم آئندگ کر دیا گیا۔

۱۹۷۶ء میں فیدرل پبلک سروس کمیشن ایکٹ، ۱۹۷۲ء کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کچھ ترمیمات کے ساتھ اس قانون کو فیدرل پبلک سروس کمیشن آرڈیننس، ۱۹۷۶ء کے نام سے دوبارہ جاری کیا گیا۔ آرڈیننس کے مطابق کمیشن کم فرانص مندرجہ ذیل قرار پائے گے۔

(۱) کل پاکستان ملارمنتوں، وفاقی سول ملارمنتوں اور آرڈیننس کی دفعہ ۱۰ کے تحت بنائی گئی قواعد کے ذریعہ مقرر کی جانے والی دوسری اسامیوں میں بھرتی کے لیے (مسلح افواج کے افسروں کے علاوہ) آزمائشوں اور امتحانات کا ابتمام کرنا۔

(۲) محولہ ملارمنتوں اور اسامیوں کے لئے قابلیت اور بھرتی کے طریقوں سے متعلق معاملات پر صدر کو مشورہ دینا اور کسی دوسرے معاملے پر مشورہ دینا جو صدر کمیشن کو بھیجے۔

ابتدائی انتخاب کا کام ادارے کے ان تمام کاموں میں سب سے ابم ہے جو انتخاب کرنے والوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ ان کام کی روح ان لوگوں کی صلاحیتوں کا حائزہ لینا ہے جو کے بارے میں انتخاب کرنے والوں کو کوئی علم نہیں ہوتا اور ان لوگوں کو ان میں سے منتخب کرنا ہے جو بظاہر موزوں معلوم ہوں۔ اس کام میں ممکنہ غلطی کی سزا بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو ملازم رکھ لیا گیا جو مطلوبہ کام تسلی بخش طور پر نہیں کر سکتے یا اپنے ساتھیوں سے اشتراک عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہو گا کہ اجر مستقبل کے مسائل کی جو فصل بوریا ہے وہ نتائج کے لحاظ سے دور رہ ہوں گے۔ مزید برآں ان مسائل کی بنیادی وجہ یعنی غلط طریقہ انتخاب تسلیم نہ کیا جائی تو وہ نہ صرف چلتے رہیں گے بلکہ بڑھتے بھی جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وجہوں کے بعای علامات مرض کے علاج کی لاحاصل کوئی ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہ جائیں، ملازمین مختلف قسموں کے خراب تنظام کی وجہ سے تکلیف ہائیں، رابطہ اور میل جوں خراب ہو، استشار پیدا ہو اور حوصلہ پست ہو، غیر جاہزی، بیماری اور برتال کی شرح زیادہ ہو۔ نتیجتاً تربیت یافتہ افراد کی مسلسل کمی ہوتی جائی گی اور بھرتی اور تربیت کے عمل کو بار بار دہرانا پڑے گا۔ مذکورہ حقائق کی روشنی میں انتہائی ضروری ہے کہ انتخاب کی طریقے ایسے ہوں کہ کسی اسامی کے لئے کسی شخص کے انتخاب میں غلطی کا احتمال کم سے کم ہو۔ یہ بہر حال تسلیم کر لیا گیا ہے کہ طریقہ انتخاب کتنا ہی صاف اور صریح (Proof) کیوں نہ ہو اس میں کسی قدر غلطی کا احتمال ضروری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بالفعل یہ مسئلہ پیش کوئی کا ہے اور انتخابی عمل کی ناگزیر شکل ہے۔ پیش کوئی اپنی نوع کے اعتبار سے ہی عدم یقین ظاہر کرتی ہے لیکن کام کے ایک نئے ماحول میں انسانی رویہ کی کسی پیش کوئی سے کم قابل اعتبار کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فکری طور پر صرف ایک طریقہ ایسا ہے جس سے بم معقول حد تک ہر یقین ہو سکتے ہیں کہ آیا اجنبی اشخاص کسی تنظیم میں ملازمت کے لئے مخصوص شرائط پوری کرنے کے لائق ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی یہی ملازمت کیے لیے انتخاب کے سلسلے میں تمام ممکنہ صورتوں کا احاطہ کرنا چاہیے۔ یعنی نئے عملیے کی ابتدائی بھرتی اور تعیناتی یا موجودہ عملی کا تبادلہ اور ترقی۔ بنیادی اصول ہر ایک کے لئے ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بیمارا تعین طریقہ عمل کے بہلے مرحلے یعنی ادارے کے باہر سے ملازمین کے ابتدائی انتخاب سے ہیں۔ اگر کسی ادارے کی کامیابی کا بالآخر انحصار اس کے ملازمین پر ہے تو

تو ضمیح، اس دفعہ میں بھرتی سے مراد ابتدائی تقرر ہے کہ بدتریعہ ترقی و تبادلہ۔

### قواعد پبلک سروس کمیشن ۱۹۷۸

آرڈیننس کی دفعہ ۱۰ میں لکھا ہوا تھا کہ وفاقی حکومت آرڈیننس کے مقاصد پورا کرنے کے لئے سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعہ قواعد وضع کر سکتی ہے۔ اس دفعہ کی پیروی کرتے ہوئے عملہ ڈویرن نے قواعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن ۱۹۷۸ء بنائے۔ ان قواعد میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کمیشن صرف بنیادی پیمانہ تنخوا ۱۶ اور اس سے اوپر کی اسامیوں پر بھرتی کے لئے آزمائشوں اور امتحانات کا اہتمام کرے گا۔ بطور استثناء کچھ اسامیوں کو کمیشن کے دائرہ کار سے خارج کر دیا گا۔ ان اسامیوں کے نام قواعد کے جدول میں دیے ہوئے ہیں۔

قواعد میں یہ گنجائش رکھنی گئی ہے کہ ناگزیر حالات میں اسامیاں کمیشن کے مشورے کے بغیر فی الواقعی چھ ماہ یا اس سے کم کی مدت کے لئے تا بھرتی بذریعہ کمیشن پر کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں توسعہ کمیشن کی منظوری سے کی جا سکتی ہے بشرطیک اسامی پر باقاعدہ بھرتی کے لئے مطالبہ (Demand) اسامی کو فی الواقعی بنیاد پر پر کرنے کے ایک ماہ کے اندر کمیشن کو پہیج دیا گیا ہو۔ کمیشن کا نامہ ائمہ کے بعد فی الواقعی تقرر حتم کر دیا جاتا ہے۔

یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق کمیشن سے رجوع کیے گئے عاملے میں کمیشن کا مشورہ مانتا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی وزارت یا ڈویرن کمیشن کے مشورے سے اتفاق نہ کرے تو اتفاق نہ کرنے کی وجہ کمیشن کو لکھ کر بھیجنा پڑے گا۔ اگر کمیشن ان وجود پر غور کرنے کے بعد یہی اپنا مشورہ بدلتے کو تیار نہ ہو تو کمیشن کے مزید اظہار خیال کے بعد معاملہ عملہ ڈویرن کے توسط سے برائی فیصلہ صدر کو پیش کیا جائے گا۔

### (ب) نئے ملازمین کا انتخاب

اسٹلاچ افرادی انتخاب زیادہ تر خارجی ذرائع سے نئے عملی کے حصول کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ حقیقتاً افرادی انتخاب کو کسی شخص کی نئی ملازمت کیے لیے انتخاب کے سلسلے میں تمام ممکنہ صورتوں کا احاطہ کرنا چاہیے۔ یعنی نئے عملیے کی ابتدائی بھرتی اور تعیناتی یا موجودہ عملی کا تبادلہ اور ترقی۔ بنیادی اصول ہر ایک کے لئے ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بیمارا تعین طریقہ عمل کے بہلے مرحلے یعنی ادارے کے باہر سے ملازمین کے ابتدائی انتخاب سے ہیں۔ اگر کسی ادارے کی کامیابی کا بالآخر انحصار اس کے ملازمین پر ہے تو

کیا جاتا ہے۔

۳۔ گروپ محلی آزمائشیں ان آزمائشوں میں انتخاب کننے ایک معیاد تک امیدواروں کا بطور ایک شیم مختلف کام کرنے پوتے مشابہ کرتے ہیں۔ بعض وقت کسی مقررہ قائد کے ساتھ اور بعض وقت بغیر کسی قائد کی۔ آزمائشیں امیدوار کے کام کرنے سے متعلق انفرادی اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے دونوں کے خصائص معلوم کرنے میں کارآمد ہیں۔

۴۔ مواجهات اتفاق مذکورہ آزمائشوں کے باوجود انتخابی عمل میں مواجه ضرور شامل ہوتا ہے۔ اکثر صرف یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ مختلف افراد یہی لئے سکتے ہیں یا ایک مجلس مواجهہ کے ذریعہ لیا جاسکتا ہے۔ یہ انفرادی انتخاب میں استعمال کیا جاتے والا سب سے عام طریقہ ہے۔

اعتراف ہے اور مشکل سے برد آزما ہوئے کا ایک مصالحتی طریقہ ہے جسکے آزمائشی تقریباً غیر موزوو لوگوں کے انتخاب میں ابتدائی غلطی کو درست کرنے کا بہترین طریقہ ہو یہ مخالف قسم کی غلطی کو غایب کرنے اور اس کے تدارک کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ یعنی ان لوگوں کا مسترد کیا جانا جو اگر منتخب کر لیے جاتے تو موزوو ملازمین ہو سکتے ہے۔

عملاء آدمیوں کے انتخاب میں ہو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ آزمائش استعدادبرائی کاربیان نمایاں (Ability tests of achievements) یہ آزمائش یہ جانچنے کے لئے وضع کی جاتی ہیں کہ ایک امیدوار پہلے سے کیا کیا جانتا ہے اور کیا کیا جانتے کی ملاحت رکھتا ہے ( مثلاً کاری چلانے کا پڑ، ثابت کاری، غیر ملکی زبانی، قانون کا علم وغیرہ)۔

۲۔ آزمائش استعداد برائی طبعی میلان (Ability tests of aptitude) اس کا مقصد کام سے متعلق ضروریات پوری کرنے کے لئے اس اندر وہی پوشیدہ صلاحیت کے متعلق پیش گوئی کرنا ہے جسے تربیت اور تجربے کے ذریعہ مطلوب معیار تک لایا جا سکتا ہے۔ اس میں آزمائش بھی شامل کی جا سکتی ہے۔

۳۔ آزمائش برائی شخصی خصائص اور تحریک: شخصی خصائص کی وجہ سے ایک سادہ سی روزمرہ کی مثال جسمی سمجھنے کے لئے علم نفسیات کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں ایک ایسے شخص کا تقریباً بطور افسر تعلقات عامہ کر دیا جائی جس کا رویہ مردم بیزارانہ ہو تو اجر کے لئے سنگین مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی خصوصی آزمائشیں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کے موجہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کے متعلق بلند بانگ دعویے کرتے ہیں اسی طرح دوسرے ان پر تنقید کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تابم یہ جھکڑتے اس مضمون کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے۔ بہرحال عملی مقاصد کے لئے دو خاص قسم کے طریقوں کو امتیاز حاصل ہے۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں:

(الف) خود کیفیت نگار فہرست اشیاء یہ وہ طریقہ ہے جس میں امیدواروں سے ایک سوال نامہ کے ذریعہ ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس میں درج مضمون اور حالات کیم بارے میں ان کے کیا احساسات ہیں۔

(ب) افلانی آزمائشیں یہ وہ طریقہ ہے جس میں امیدواروں سے بصری حرکات پر اپنی آزادانہ اور بغیر کسی جبر کے رد عمل غایب کرنے کے لئے

## چھٹا باب

### تربیت

#### (الف) نوعیت اور مقاصد

شروع ہی سے اصطلاح سے متعلق کچھ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عملی کے ندو کے سلسلے میں تربیت اور تعلیم کی الفاظ باقاعدگی سے استعمال ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کی معنی میں فرق ہے۔ تربیت عموماً قلیل المیعاد مقاصد ظاہر کرتی ہے جو براہ راست کام کی مخصوصی پہلوؤں سے متعلق ہوتی ہیں، اس کے برعکس تعلیم سے مراد خصوصاً ایک وسیع عمل ہے جس کا تعلق مسلسل یا طویل المیعاد مقاصد سے ہوتا ہے۔ دونوں ہی سیکھتے کے عمل میں تابہ سہولت کی خیال سے اس بات میں لفظ تربیت میں استعمال کیا جائی گا جب تک کہ کسی خاص امتیاز کی ضرورت نہ پیش آجائی۔

تربیت کا صرف ایک عام اور آخری مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے کام کی یعنی سطحون پر موثر انجام دہی یعنی ادارے کی مجموعی انجام دہی، اس کے اجراء کی انجام دہی اور اس کی انفرادی ملازمیں کی انجام دہی۔ کسی کام کو کرنے کے لیے خاص قابلیت، مہارت اور انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کام کی اصلاً انجام دہی کی تجربی سے حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن سیکھنے کے لیے حالات بالفعل پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ متعلقہ لوگوں کو مطلوبہ اگامی، پندرہ منڈی اور ڈھنگ سکھائی جا سکیں۔ یہی وہ چیزوں ہیں جو کام کی تکمیل میں انسان کے روپوں میں ضروری تدبیلیاں لاتی ہیں۔ ان تدبیلیوں کا حصول ہی تربیت کی روح ہے۔

محضراً تربیت کسی ادارے یا دفتر کی مقاصد کی حصول میں معاون ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اگر تربیت سے مطلوبہ مقصد ہوا نہیں ہوتا تو یہ ذرائع کی صیاع کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ خصوصاً موجودہ زمانہ میں جب کہ تربیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اس پر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تربیت زیر تربیت لوگوں کو تربیت کیے دوران یا اس کے بعد کام میں غیر متعلق نظر آئے تو اس کے اثرات مطلوبہ مقاصد کی بالکل برعکس ہوں گے۔ متناقض طور پر زیر تربیت لوگ تجربی کی بنا پر تحریک کیے جائیں اور تحریکی ہو جائیں گے۔

- ۱۔ عام طور سے زندگی میں اکامی آزمائش اور غلطی کے تجربے سے ہوتی ہے (یعنی غلطیوں سے سیکھنا ایک اہم بلکہ لازمی عمل ہے)۔
- ۲۔ علم حاصل کرنے کی تحریک (Motivation) کامیابی کے لئے شرط اولیں ہے۔ تحریک کو پوری تربیت کے دوران برقرار رکھنا چاہئے اور کارنامے (Achievement) کے بارے میں باقاعدہ اطلاع واپسیں (Feed Back) کے ذریعے اسے مضبوط کرنا چاہیے۔
- ۳۔ زیر تربیت افراد کے لئے تربیت کے مقصد کی پیروی اور صحیح نتیجے کا ادراک رکھنا ضروری ہے۔
- ۴۔ جو اختلافات افراد کو الگ کرتے ہیں ان کی عکاسی عمل اکامی میں ہوتی ہے، لوگ اثرات اور حرکات کے رد عمل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی اکامی کی شرح بھی مختلف ہوتی ہے، جن طریقوں سے جوان اور بڑے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں بھی خیالی فرق ہوتا ہے۔
- ۵۔ تمام حواس عمل اکامی میں ایکاہم مقام رکھتے ہیں۔ ان عوامل میں منحصر اثر کی علامت روز مرہ زندگی کے عام عمل اکامی میں دیکھنی جا سکتی ہے۔ یعنی بچوں کے بدایے ہوئے روپوں میں جو والدین کے اور دوسرے موثر کردار کے مشابدے کا نتیجہ ہوتی ہے۔
- ۶۔ جب طلباء پوری نظام کی اہمیت اور ان کے اجزاء ترکیبی کے بابمی تعلق کو سمجھنے لگتے ہیں تو حصول علم میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۷۔ اکامی لازماً ایک ذاتی اور انفرادی عمل ہے۔ یہ امن بات پر دلالت ہے کہ تربیت دہندگان کا کردار حصول علم کے لئے زیادہ سے زیادہ ممکنہ موافق ماحول پیدا کرتا ہے، جس کا تعلق تربیتی مقصودات اور کام کی ضروریات سے ہوتا ہے۔

#### (د) اغراض و مقاصد

انتظام میں اغراض و مقاصد کی بنیادی اہمیت ایک پرانی بات ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود جب تک ان کا تعین نہ ہو جائی تربیت کی منصوبہ پندی نہیں ہو سکتی۔ تربیت کے اغراض و مقاصد کے تعین کرنے میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو لوگ اس کو وضع کرئے کہ ذمہ دار ہیں وہ جتنا زیادہ ممکن ہو ای لوگوں کو اس میں شامل کریں جو بڑا راست متاثر ہوتے ہیں یعنی مستقطبی شعبہ اور ان کا عمل۔ بنیادی سوالات جو ہمیشہ پوچھئے گئے ہیں وہ ہیں تربیت کیوں ضروری ہے اور کن طریقوں سے یہ کام کے مولیٰ انجام دیں کی طرف ربمنامی کرئے گئے۔ تربیت کا مقصد ہی آخری مقصد ہوتا ہے، مدعات ذیلی مقاصد ہوتے ہیں جن تک رسانی آخری مقصد

#### (ب) تنظیم اور تربیت

اگر ہم بے کہیں کہ تربیت صرف اس لئے ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ضرورت کی شناخت کر لی گئی ہے۔ لیز یہ کہ مشکل کی بھی بہجان کر لی گئی ہے۔ ضرورت سے اکامی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ کسی کے مفروضوں یا تصورات کی بنا پر با باقاعدہ تحقیق اور تشخیص کے ذریعے۔ اگر کوئی ادارہ فصلہ کر لے گا وہ باقاعدہ ذریعے کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو رسمی بنانے کے لئے ایک نظام قائم کرنا پڑے گا اور اپنے تمام کارکنوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اس سے کیا مطلوب ہے۔

نظام صرف اسی وقت مؤثر طور پر کام کرے گا جب اس کی قیادت مستقطبین اعلیٰ کریں اور بر سطح پر اسے ادارے سے مربوط رکھا جائے۔ عملاً اس کے لئے ایک مرکزی تربیتی، کمیٹی، ایک مرکزی تربیتی اور تحقیقی ادارے، مستقطبین سلسہ، افراد اور تربیتی عملی اور ملازمین کے درمیان اشتراکی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لئے افرادی منصوبہ پندی کی فرمام کردہ ابتدائی معلومات، تجزیہ کار اور تکمیل کار کی تشخیص کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تربیت کو کل نظام کار سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔

#### (ج) وضع تربیت

تربیت ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ اس لئے یہ غور کرنا لازم ہے کہ یہ نصاب تربیت وضع کرنے کے لئے کیا دلالت کرتا ہے۔ جونک انسانی کردار ورثتے میں ملنے والی اور زندگی کے تجربوں سے سیکھی جاتی والی چیزوں کے اتصال کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے سیکھنے کے عمل کو نفسیاتی مطالعات پر ایک مرکزی جیہت حاصل ہے۔ "سیکھنا" سے کیا مراد ہے اس پر عام طور پر اتفاق پایا جاتا ہے یعنی کم و بیش ماضی کے تعلق سے روشن میں ایک مستقل تبدیلی جس کی نشاندہی صرف مشابدے اور تشخیص سے ہی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک نئے علم یا پژوهندی کے حصول کا مظاہرہ نہ کیا جاتی یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کیا علم حاصل کیا گیا ہے۔

انسانی علم کا موضوع اتنا پیچیدہ اور ممتاز ہے کہ اس پر مزید بحث یہ سود ثابت ہو گی لیکن تحقیق جو اہم اور بنیادی متألف منظر عام پر لاتی ہے، جو وضع تربیت میں خصوصاً مفید طبق ہیں ای میں سے جلد کا خلاصہ مختصرًا بیان کر دینا کارامد ہوگا۔

- ۷۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیستریشن، کوئٹہ۔
- ۸۔ پاکستان رول ڈبیلیment اکیڈمی، پشاور۔
- ۹۔ سیکرٹریٹ تریننگ انسٹی ٹیوٹ، اسلام آباد۔

ان میں سے آخر الذکر کی علاوہ سب خود اختار ادارے ہیں جو بورڈ آف کورٹر کی زیر انتظام کام کرتے ہیں۔ سیکرٹریٹ تریننگ انسٹی ٹیوٹ عملہ ڈوبٹن کا ملحد مکمل ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے جو وفاقی حکومت اور ان کی خود اختار اداروں کے فیر جریدی عملی کو سیکرٹریٹ کی دفتری طریقہ کار سے متعلق مختلف مصائب میں تربیت دیتا ہے۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ جریدی ملازمین کو تربیت نہیں دیتا۔ ان ادارے میں بنیادی پیمانہ تنخواہ ۲۰ تک کم اسرور کو بھی مذکورہ مصائب میں تربیت دی جاتی ہے۔

وفاقی حکومت کی ملازمین کو تربیت حاصل کرنے کی لیے بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے۔ اقوام متحده کی ایجنسیاں، امریکی امدادی ادارے اور بہت سے دیگر ممالک اس کے لئے وظائف پیش کرتے ہیں مگر بد قسمتی یہ ہے کہ ان سے بورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ بروقت دفتری کارروائی پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے وظائف بیکار جاتی ہیں۔

یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ سمارے ملک میں نظام تربیت موزون خطوط پر استوار نہیں کیا گیا ہے۔ مختلف پیشہ و رانہ گروپوں کے صرف آزمائشی افسران کی تربیت باقاعدہ منصوبوں کی تحت ہوتی ہے دوسرے ملازمین کی تربیت کے لیے منظم منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ طالب ہے کہ ان حالات میں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

حاصل کرنے سے قبل ضروری ہے۔ ان کی تصریح شروع میں ہی ضروری ہے تاکہ تربیت کی منصوبہ بندی منظم طریقے سے بلحاظ مصائب اور طریقے جو ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہوں کی جا سکے تاکہ مقاصد کے حصول کے آخر میں تشخیص کی جا سکے۔

جونک اکاپی صرف روپے کے مطابرے کی دریعہ ہی جانجی جا سکتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اغراض و مقاصد کو بیان کرنے کے لیے جو زیان استعمال کی جانبی وہ مطلوب روپے کی عکاسی بلحاظ انجام دیں، حالات و معیارات کو۔ ثابت کاری کا کورس وضع کرنے کے معاملے میں یہ کہنے میں کوئی حقیقی مشکل نہیں ہے کہ زیر تربیت افراد سے توقع کی جائی گی کہ وہ اپنی علمی تکمیل کا مطابرہ مقررہ بالا معيار کے مطابق کریں گے، فی منت القاط کی تعداد، قابل قبول غلطیوں کی شرح، ثابت مشین کی حد (Range) جس پر استعداد مطلوب ہے، وہ خاص کاعدات جنہیں ثابت کرنا ہے، مطلوبہ شکلوں وغیرہ کی صراحت آسانی سے کی جا سکتی ہے اور بعد میں اصل کام کی تکمیل سے رشتہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بر عکس انتظامی کورسون کا تعاقب کم واضح میدانوں سے ہے جیسے شخصی اکاپی اور رود حس، خبر رسانی (Communication) اور تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت۔ مشکل سے ہی یہ کہنے کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے کورس کے اختتام پر مستطمپین (Managers) خبر رسانی کی بڑی میں کارنامے کا مطابرہ اٹھیں صریح لحاظ سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے جیسا کہ کورس کی معاملے میں۔ لیکن اس مشکل کو زیادہ سی زیادہ ممکن حد تک درستگی کی کوشش نہ کرنے کا بہا نہ نہیں بنتا چاہیے۔

#### (۵) پاکستان میں تربیت کا نظام

پاکستان میں سرکاری سطح پر تربیت کو کافی ایمیت حاصل ہے۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام درجنوں تربیتی اور تحقیقی ادارے موجود ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل عملہ ڈوبٹن کے زیر انتظام ہیں۔

- ۱۔ پاکستان ایڈمنیستریشن اسٹاف کالج، لاہور۔
- ۲۔ سول سروس اکیڈمی، لاہور۔
- ۳۔ نیشنل پولیس اکیڈمی، اسلام آباد۔
- ۴۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیستریشن، لاہور۔
- ۵۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیستریشن، کراچی۔
- ۶۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیستریشن، پشاور۔

## ساتوان باب

### انتظامی علاقے اور میدانی خدمات

#### (الف) صدر مقام اور میدان

حکومت اور کسی بڑی اپارادھ کا انظام ایک ہی مرکز سے موثر طریقے سے نہیں چلا جائے سکتا۔ جن لوگوں کی ضروریات پوری کرنا حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پورے ملک میں پہلے ہوتے ہیں اور زیادہ ابھ خدمات بالکل ان کے دروازے تک لے جانی پرتبی نہیں۔ اگر ایک ہی ڈاکخانہ یا اسکول اسلام آباد میں ہو اور پاکستان کم تام لوگوں، میں کہا جائے کہ اپنی ڈاک یا پیجون کو اس ڈاکخانہ یا اسکول میں ہمیجن ہو گا۔ اس لیے حکومت اور انتظامیہ کے بہت سے ذیلی مراکز کو کام کی تقسیم کی لحاظ سے قائم کرنا لازمی ہو جاتا ہے تاکہ ہر ذیلی مرکز سے ملحفہ علاقے کی ضروریات آسانی سے پوری کی جا سکیں۔

کسی علاقے کے مذکوری مقام کو جہاں اُنہیں کی سب سے اونچی انتظامیہ یا بینت مجاز واقع ہو اور جہاں سچے تمام انتظامی بدایات اور انصباط پورے علاقے تک پہنچتے ہیں اسے صدر مقام کہتے ہیں اور باقی مجب علاقوں کو میدانی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پورے پاکستان کو ذہن میں رکھیں تو اسلام آباد صدر مقام ہو گا اور ملک کے باقی سب حصوں کو بشمول صوبائی دارالخلافہ میدان سمجھا جائے گا۔ جب ہم کسی صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صوبائی دارالخلافہ بھائی میدانی مقامات کے صدر مقامات سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صلعوں، تحصیلوں وغیرہ کے اصل شہر ان کے بالترتیب صدر مقامات ہوتے ہیں گو بڑے انتظامی علاقوں کی نسبت سے وہ صرف میدانی مقامات ہیں۔

میدانی تنظیم رقبے اور اختیار دونوں لحاظ سے اکثر کثیر الدرجات (Multi-Level) ہوتی ہے۔ صدر مقام اور میدان کے درمیان ایک سے زیادہ سطح یا درجہ ہوتے ہیں جسے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، صنعت، تحصیل وغیرہ۔

#### (ب) حکومتی اور انتظامی علاقے

حکومتی اور انتظامی علاقوں میں امتیاز کو سمجھے لینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک ہی علاقے حکومت اور انتظامی دونوں ہوتے ہیں لیکن ایسا بعیشہ نہیں ہوتا۔ جب کہ حکومتی علاقہ عموماً انتظامی ہی ہوتا ہے، انتظامی علاقہ حکومتی

۳۔ مالی: ایسی حدود کو جو مالی اعتبار سے ناکافی ہوں انہیں ان کے عظیم تر پروپریوٹ کے ساتھ صم کر دیا جاتا ہے جو اسی ملک کا حصہ ہوں۔

#### (د) حکومتی اور انتظامی علاقوں کی موزونیت کے معیارات

۱۔ علاقہ مالی لحاظ سے خود کفیل ہوتا چاہیے یعنی ان کے پاس کافی آمدنی ہونی چاہیے تاکہ ایک علیحدہ حکومتی اور انتظامی نظام کے اخراجات پورا کر سکے اور ان کی ترقی کے لئے بھی وسائل ہوں۔ ہر شیء حکومتی وحدت کو گورنر، وزیر، اسے ایک انتظامی کے ممبروں، دیوان حکومت، عدالت عالیہ اور حکومتی مشینری کی دوسری مددوں پر اخراجات کے لیے اضافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کے اخراجات پورے کرنے پر انہی جائی تو ترقیاتی اور فلاحتی سرگرمیوں کے مقاصد کے لئے بہت کم رہ جائی گا۔ ان حالات میں وفاق سے مدد کی ضرورت بڑے کمی یا علاقہ پسمندہ رہ جائیے گا۔ کفایت شعراً کا تقاضہ یہ ہے کہ حکومت یا انتظامیہ کا نظام ایسا ہو کہ وہ بڑے سے بڑے مصکت روپیہ کی ضروریات پوری کر سکے، بشرطیکہ اس روپیہ کے انضباط اور کارکردگی پر برا اثر نہ بڑے۔

۲۔ اس کی آبادی کافی ہو۔ کسی علاقے کی آمدنی کا دارومندار اس کی آبادی پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر، پیش کردہ خدمات کے لئے مناسب آبادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

۳۔ روپیہ کے سائز کا انحصار ذرائع آمد و رفت کی دستیابی پر بھی ہوتا ہے۔  
۴۔ بہت سی خدمات کی اینی حد ہوتی ہے اور انتظامی وحدت کو اس کی مطابقت کرنی پڑتی ہے جسے ریلوے اور سرکین حد کے لحاظ سے قومی ہوتی ہے۔ خالصتاً انتظامی علاقے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ علاقے میں آبادی کافی ہو جو کل وقتی عملی کے لئے کام مہما کر سکے۔ دوسرے یہ کہ علاقہ اتنا بڑا نہ ہو کہ علاقے کی انتہائی سرحد پر بسنے والی لوگوں کے لئے صدر مقام پر پہنچنا دشوار ہو۔

#### (ه) میدانی تنظیموں کے نمو کی وجوہات

۱۔ مخصوص کاموں کے اس سے لیے جانے کی ضرورت، کیونکہ جیسا کہ ہمیں علم ہے ان میدانی ملازمیوں کے ذریعہ ہی جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں انتظامیہ لوگوں نکل پہنچنے کی امید کر سکتی ہے۔  
۲۔ میدانی ایجنسیوں کی مرکزیت یا تکسیر مرکزیت (Centralization or Decentralization)

نہیں ہو سکتا۔ پورا پاکستان، صوبی، میونسپل کمیٹیاں، یونین کونسلیں وغیرہ حکومتی نیز انتظامی علاقوں ہیں۔ لیکن ریلوے کے علاقے صرف انتظامی ہیں، دونوں علاقوں میں امتیازات یہ ہیں۔

۱۔ حکومتی علاقہ: اس کی اپنی علیحدہ دستوری تنظیم ہوتی ہے جس میں ایک منتخب مقنی، میونسپل کاربورویشن یا کمیٹی، صلح کونسل وغیرہ شامل ہیں۔ اس کا نام خواہ کچھ ہو، ایسے علاقے کی حکومتی تنظیم عوام کے ووٹوں سے تشکیل پاتی ہے نہ کسی اعلیٰ مقندرہ کی نامزدگی یا تقرر سے۔

۲۔ حکومتی علاقے کی سرگرمیوں کا بیمیٹ ایک خود مختار دائرہ ہوتا ہے جو بذریعہ قانون یا منشور اسے دیا جاتا ہے۔ خود مختاری کی قدر کم ہو یا زیادہ علاقے کا اپنا حق ہوتا ہے نہ کہ کسی بلند تر مقندرہ کی تابع۔

۳۔ حکومتی علاقے کا الگ مستند وجود اور کام ہوتا ہے۔ پاکستان میں صلح صوبی کی ایک ذیلی تقسیم ہے لیکن یہ ایک حکومتی علاقے بھی ہے کیونکہ اس کی ایک منتخب صلح کونسل بھی ہوتی ہے جو ذیلی کمیٹر کے دفتر سے بالکل الگ ہوتی ہے، جو انتظامی ذیلی کمیٹی کا انجراج ہونے کی حیثیت سے صوبائی حکومت کا افسر خاص ہوتا ہے۔

۴۔ حکومتی علاقے کی پیشہ حاکمہ (Governing Body) کے پاس محسول لکر کر مالیہ برہائی کا اختیار ہوتا ہے جسکے ایک انتظامی علاقے یا وحدت کے پاس ایسا اختیار نہیں ہوتا ماسوا صوبائی مقنی کے کسی قانون کے تحت۔

#### (ج) حکومتی علاقوں کی تشکیل کا تعین کرنے والے عوامل

جو عنابر حکومتی علاقوں کی سرحدوں کا تعین کرنے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ تاریخی: بہت سے ملکوں میں حکومتی علاقے تاریخی اتفاقی کے تباہی میں وجود میں آئے ہیں نہ کہ بنائی گئی ہیں جیسے سابق بنگال یا مدراس پریسیدنٹسی جو شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کے تباہی میں وجود میں آئیں۔

۲۔ جغرافیائی: کسی ایسے ملک میں جو بہاؤں اور دوسری قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے نکلوں میں مقسم ہو وہاں حکومتی سرحدوں کا تعین جغرافیہ کرتا ہے۔

۳۔ سیاسی: سیاسی حقیقت کا تعلق صوبائی پالیسی یا لوگوں کی خواہشات اور جذبات سے ہوتا ہے۔

## انہوں باب کارکردگی

### (الف) مقصد اور نوعیت

افرادی انتظام میں کارکردگی کی تشخیص ایک کلیدی کام ہے۔ یہ انتظامیہ کو ضروری معلومات فراہم کرتی ہے جس سے ان دو بنیادی سوالوں کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ ملازمین کتنے موثر طریقے سے اپنے کام کر رہے ہیں، دوم یہ کہ کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ یہاں معلومات کو ہی ان فیصلوں کی بنیاد کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو انسانی وسائل کو موثر طور پر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ معلومات عمل کی نمو کے لیے ایک بنیادی عضور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چونکہ یہاں لازماً صورت حال یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں اس لیے داخلی کیفیت (Subjectivity) کے تمام پیدائشی (Inherent) مسائل موجود ہوتے ہیں اور یہ موثر انعام دہی کے تعین اور پیمائش کو بمیش پیچیدہ بنا دیتے ہیں، تاہم تشخیص حیات کار میں ایک عمل مسلسل ہے اور ایک لحاظ سے ادارے کو تشخیص کا سلسلہ مدارج (Hierarchy) تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس میں متنقمنین اہم ماتحتوں کی اوپر سے نیچے کی سطح تک تشخیص کر رہے ہوتے ہیں۔ عملاً کام کے مقاصد کے حصول کی تشخیص سے جو مواد حاصل ہوتا ہے اس کو افرادی نظام کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- ۱۔ مخصوص قسموں کی ملازمت کے لیے لوگوں کی موزونیت اور خلقی استعداد معلوم کرنا۔
- ۲۔ بلحاظ تجربہ، تربیت اور تعلیم لوگوں کی ضروریات نمو معلوم کرنا۔
- ۳۔ جو لوگ ظاہر زیادہ ذمیداری کے کام کے لیے موزون ہوں ای کسی شناخت کرنا۔
- ۴۔ انعامات کا فیصلہ کرنے اور مختص کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرنا۔

### (ب) نظام تشخیص عملہ

عملی طور پر کام کے انعام دہی کی تشخیص دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ جسے رسمی اور غیر رسمی طریقہ کار کہتے ہیں۔ تمام متنقمنین غیر رسمی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اور برابر اپنے ماتحتوں کے کام کے بارے میں رائے قائم

کے مقاصد کے لیے بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس صحن میں یہ بات عور کرنے، کی ہے کہ میدانی تنظیموں کے قیام میں مرکزیت یا تکسیر مرکزیت شامل نہیں ہے۔ یہ دونوں میں سے کسی کا بھی آہ ہو سکتا ہے۔ اگر میدانی تنظیم کا مقصد خود مختار مقامی حکومت پر مقامی ایجٹس کے ذریعے مرکزی نکرانی اور اختیار کو سخت کرنا ہے تو بغیرہ مرکزیت ہے، لیکن اگر دوسری طرف مرکزی ایجٹس کے مقامی دفاتر، مقامی حالات سے انتظامی تطبیق کے لیے وضع کیے جاتے ہیں تو ان دفاتر کے باتوں میں کافی ابتداء کاری (Initiative) اور اختیار دینا پڑے گا اور نتیجہ تکسیر مرکزیت ہو گا۔

۲۔ حرفياتی ترقی نے بھی میدانی تنظیموں کو ضروری بنا دیا ہے۔

۱- اسی میں اوصاف لکھنے کی گنجائش رکھی جاتی ہے، جو انجام دیں رہی، ذاتی خصائص، بچن وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی میں سے بر وصف کا اظہار درج ہند یعنی اس پر بہترین سطح پر کیا جاتا ہے، متنظمین یا اطلاع دینے والے افسر (Reporting Officer) اپنے ماتحتوں پر بر وصف کے متعلق غور کر کے اپنی رائے لکھتے ہیں۔ رائے کے افہار کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں نعمت دینے، کہیں مناسب خاتمی میں مختصر دستخط کرنے اور کہیں صرف یہ نشان (✓) لکھنے پر عمل کیا جاتا ہے۔

۲- اسی میں بیانی ریپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں زیر تلفظ مدت کی دوران عملی کے کام کی انجام دیں کا ذکر ہوتا ہے۔

۳- اسی میں دونوں مذکورہ بالا طریقے یکجا کر دیے جاتے ہیں یعنی درجہ بند اور بیانی طریقہ۔

#### (د) سول ملازمت میں طریقہ کار

سول ملازمتوں میں عموماً مذکورہ بالا طریقہ (۲) پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس پر تفصیل کار کا خلاصہ، ضروریات تربیت، آئندہ تعین و تبادلے اور ترقی کے لئے موروثیت شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تصدیقی افسر (Countersigning officer) کی مختصر بیانی ریپورٹ کے لئے گنجائش بھی رکھی جاتی ہے۔ تصدیقی افسر ریپورٹ لکھنے والے افسر سے فوراً اور کہیں افسر ہوتا ہے۔ وہ اگر ضروری سمجھے تو تصدیق کرتے وقت کسی اندراج کی ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ عملی کی ریپورٹ کا اصل مقصد بہترین ممکنہ اطلاع فراہم کرنا ہے جس سے ابھ افرادی فیصلے کیم جا سکیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں:

۱- ریپورٹ کی فارم سے محکمہ یا ادارے کی موثر انجام دیں کی ضروریات کے تعین اور اس کی نشان دیں کے معیار کی عکاسی ہونی چاہیے۔

۲- اسے بہت ہی غور و خوض کے بعد تشكیل دینا چاہیے تاکہ انجام دیں ضروریات تربیت، آئندہ تعین اور ترقی کی استعداد سے متعلق کام کے تمام پہلوؤں پر جامع اخلاق کو یقینی بنایا جا سکے۔

۳- افسروں سے ریپورٹوں کا قارم پر کرنے کے مطالبات کو ان کی تشخیصی استعداد سے تجاوز نہیں ہوتے دینا چاہیے۔ اکٹی اوصاف جن کی فارم میں شمولیت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بلاشبہ متعلقہ ہوتے ہیں مثلاً ابتداء، کاری، عزم، اس کی تعریف کرنا مشکل ہے اور اس لئے ان کی تشخیص کرنا بھی۔ لیکن کچھ اوصاف

کرنے کے لیے بلاواسطہ مشابدے اور بالواسطہ ریپورٹوں کی شہادت استعمال کرنے ہیں۔ زیادہ تر اداروں میں رسمی انتظامات بھی ہوتے ہیں جن کے مطابق متنظمین کو اپنی رائے زیادہ منظم طریقے سے مطابطہ تحریر میں لانا پڑتی ہے تاکہ ادارے اس ریپورٹ کو انجام دیں، خلقی استعداد اور اعماق کی اعتبار سے استعمال کر سکیں۔ یہاں ہے واضح کہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کسی نظام کے آخر کار موثر ہونے کا دارومند خواہ اس کی بنیاد کتتی ہی اچھی ہو، ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

عملی کی جائج کے مقاصد کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تفصیلات قدوسی طور پر مختلف ہوں گی اور اداروں کے کام میں فرق کی عکاسی کریں گی۔ تاہم کچھ بنیادی ضروریات ایسی ہیں جن کا اطلاق تشخیص کے پر نظام پر ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں:

۱- اسے جامع ہونا چاہیے اور کام کی تکمیل کے تمام پہلوؤں، تربیت کی ضرورت، تعلیم اور تجربہ کاری اور ترقی کے لئے موروثیت پر محیط ہونا چاہیے۔

۲- پورے ادارے میں اس کا یکسان اخلاق بونا چاہیے۔

۳- اسے رسمی انتظام کے ذریعہ افرادی عملی، خطی متنظمین اور ان کے ماتحتوں کے درمیان مریبوط ہونا چاہیے۔

۴- اس میں انجام دیں کہ بارے میں ماتحتوں کو اطلاع واپسیں کے لئے رسمی انتظامات، تربیت، تعلیم، رورگار اور ترقی کی ضروریات اور موقع ہونے چاہیئیں۔

۵- اسے نظام ملازمین کو سمجھے لینا چاہیے۔

۶- اس میں افراد عمدہ اور خطی متنظمین کی انتظامی اور بین الافرادی پہنچنیوں میں تربیت کا انتظام، جن کی نظام کو موثر بیانی میں ضرورت ہوتی ہے، شامل ہونا چاہیے۔

#### (ج) میعادی ریپورٹ عمل

زیادہ تر اداروں میں ماتحت عملی پر ریپورٹیں متنظمین لکھتے ہیں۔ یہ ریپورٹوں پورے نظام کے لئے بنیاد کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اس لئے یہ عملی کی مستقبل کا تعین کرنے اور ترقی کے متعلق ابھ فیصلوں کے لئے بھی کام آئی ہے۔ ان ریپورٹوں کے لئے مختلف النوع فارم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل پر یہاں بحث کی ضرورت نہیں۔ عملاً نظاموں کی اکثریت نجی ہے جوئے تھیں میں سے کوئی ایک قسم استعمال کرتی ہے۔

لکھنے کو بہت ابھیت دی جاتی ہے اور ریپورٹ دیندہ افسر کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ریپورٹ لکھنے سے پہلے ریپورٹ کے فارم میں شامل کیے گئے اوصاف اچھی طرح سمجھے لے اور بہت بیسی بیوشماری سے ریپورٹ لکھنے کیونکہ بھی ریپورٹ ملازم کے تقریر، تبادلے، ترقی اور مستقلی کی بنیاد ہونی ہے۔ اسی طرح تصدیقی افسر سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ تصدیق کرنے سے قبل ریپورٹ کی پوری احتیاط سے جہاں جس کر لے۔

حکومت پاکستان جو ریپورٹ کا فارم استعمال کرتی ہے اس میں اوصاف اور بیان دونوں کی گنجائش شامل کی گئی ہے۔ ریپورٹ خوبی ہونی ہے۔ گو افسران پورے وقت اپنے ماتحتوں کی کارکردگی کا اندازہ لکھاتے رہتے ہیں مگر ریپورٹ سالانہ بنیاد پر (جنوری تا دسمبر) لکھی جاتی ہے۔ جریدی اور غیر جریدی ملازمین کے فارم مختلف ہوتے ہیں جنک جریدی افسروں کے فارم زیادہ تفضیلی ہوتے ہیں۔ ریپورٹ میں اگر کوئی اندراج متعلقہ ملازم کے خلاف ہو تو اسے ملازم کو تحریری طور پر ارسال کرنا اور اسے جواب کا موقع دینا ضروری ہے۔ تصدیقی افسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ تصدیق کرنے وقت وہ ایسے اندراجات کے نتیجے سرخ خط کھینچ دے۔ اس سلسلے میں مفصل بدایات موجود ہیں۔ اگر کسی مخالفانہ اندراج کی اطلاع متعلقہ ملازم کو مقررہ معیاد کی اندر نہیں دی گئی تو اسے زیر غور نہیں لایا جا سکتا۔

کارکردگی کی تشخیص سے متعلق تمام ضروری بدایات مختلف مراحلات کی ذریعی جاری کرنے کے علاوہ عملہ ذوپر نہ ایسی بدایات ریپورٹ فارم کی پیش پر ہی چھپوا دی جائیں اس کے باوجود ریپورٹوں کے لکھنے اور تصدیق کرنے کے معاملے میں بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ چند عام خامیاں جو مشابدے میں آئیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ تصدیقی افسر نے جہاں ریپورٹ دیندہ افسر سے اتفاق نہیں کیا وہاں متعلق خاتون میں ترمیم کرنے کی پروا نہیں کی۔
- ۲۔ تصدیقی افسر نے اندراجات کے نتیجے جو اس کے خیال میں مخالفانہ نہیں سرخ خط نہیں کھینچا۔
- ۳۔ ترقی کے لئے ریپورٹ دیندہ افسر کی تشخیص، ریپورٹ کے حصہ دوم اور سوم کی تشخیص سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔
- ۴۔ ذاتی اوصاف کے خاتون میں جو درجہ بنیادیان ریپورٹ دیندہ افسر نے لکھی تھیں وہ مطابطے کئے مطابق نہیں تھیں مگر تصدیقی افسر نے اس پر دہیاں نہیں دیا۔

جیسے اطاعت شعراً، دیانتداری اپنے ایک الگ مشکل کے درجے میں ہیں اور خاص طور سے قیاس آرائی اور بدگمانی کے تابع ہیں۔ تشخیص کنندہ کے لئے تعداد کی لحاظ سے سلسلہ پائی تدریج (Gradations) کو آرام سے نہستنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔

اگر اس دوسری مشکل کی وجہ سے کہ عملی کی تشخیص ادارے کے موثر ہونے اور انفرادی ملازمین کے ساتھ انحصار کے لئے ناگزیر طور پر اہم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مشکل کام ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ریپورٹ لکھنے والے افسروں کی اس معاملے میں تمام منکنہ معاونت کی جائی۔ زیادہ تر عملی کی ریپورٹوں سالانہ لکھنے جاتی ہیں اور یہ معافی کے لئے خفیہ اور کھلی ہوئی دونوں ہو سکتی ہیں۔ روائیتی طور پر خفیہ ریپورٹوں کا استعمال زیادہ عام ہے۔ تاہم حالیہ سالوں میں کچھ ممالک میں رائے کا دھارا واضح طور پر برہتی ہوئی کشادگی کی طرف بہ رہا ہے۔ رازداری کی حق میں پہمیث سے یہ دلیل رہی ہے کہ کھلی اطلاع ذمی (Reporting) کے بارے میں تحقیق یہ طالب کرتی ہے کہ رائے دیندہ افسران خفہ رائے دہی کے مقابلے میں درہیانی روشن ریادہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ کھلی اطلاع ذمی کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ افسران اور ماتحتوں کی درہیان رازداری، دیانتدارانہ اور قابل اعتماد تعلقات آفیوران اور ماتحتوں کی درہیان رازداری، بدگمانی اور شکوہ کی فصا میں بروائی نہیں چڑھ سکتے جیسا کہ خفہ رائے ذمی پیدا کر سکتی ہے۔ دونوں نقطہ نظر پر کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا خیال ہے ہے کہ جس طبقہ میں ماتحت ملازمین، افسران اور افرادی عملی کے درہیان مشرک اور کھلی گفتگو کی گنجائش ہو اس کا خاص قائدہ یہ ہے کہ اس پر اعتمادی کو جو روایتی طریقے کے گرد گھبرا ڈالی رہتی ہے دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔

#### (۵) تشخیص کارکردگی کا سرکاری نظام

پاکستان میں سرکاری سطح پر سرکاری ملازمین کی کارکردگی کی تشخیص کا ایک جامع نظام موجود ہے۔ یہ نظام انہی اصولوں پر قائم ہے جن کا ذکر اس بات میں آچکا ہے۔ حکومت پاکستان کا عملہ ذوپر وفاقی سطح پر ریپورٹوں کی تیاری اور حفاظت اور ریپورٹوں کے فارموں کو مہاری بنانے کے متعلق پالیسی بدایات جاری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ متمکر (Centralised) حکومت عملی و فاقی دائیہ اختیار میں بکسانی عمل اور طریقہ کار کو بمقتضی بناتی ہے۔ اس نظام کے وہی مقاصد ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے نظاموں کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں بھی ریپورٹ

نوار بانا

## ضابطہ اخلاق

### تعارف

سول ملازمین کی لیے سرکاری اور نجی اخلاق کی بلند ترین معیارات بہت ابھی پیش کیونکہ سول ملازمین کسی ملک کے انتظام میں جنگی اہمیت کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہم وطن شہریوں کی زندگی میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انتظام کی خوبی سرکاری افراد کی راست بازی، ایمانداری، ریاضت اور قابلیت سے پرکھی جاسکتی ہے۔ کوئی بھی انتظامی نظام ان مددوں اور عورتوں سے بہتر نہیں ہو سکتا جو اسے چلاتے ہیں بلکہ یہ کہتا ریا ہے بہتر بوجا کہ ان سے وہ یہجانا جاتا ہے۔ برطانیہ میں سول ملازمت میں تھی داخل بونی والوں کو سرکاری طور سے یاد دہانی کرانی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند کی مطابق کام کرنی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے وہی کرنا لازم ہے جو پارلیمنٹ ان سے چاہتی ہے۔ ان کے لیے وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بطور سول ملازمین بحیثیت مجموعی وہ عوام کی خادم ہیں نہ کہ کسی گروہ یا جماعت کی مقاد کی۔ معاشرتی عمل کے لیے ربنا قواعد کا انحصار فرد کی جیلت اور ادراک پر بھی اتنا ہیں جتنا سانچے میں ڈھنے ہوئے ضابطوں پر۔

امریکہ میں اس معاملے میں وفاقی حکومت کی یالیسی ای القاط میں ملعونی کی جاتی ہے " وفاقی حکومت کے افسران اور ملازمین عوام کے خادم ہیں۔ اسی لیے ان کا عمل بہت سے موقعوں پر کئی شعی ملازمتوں کے مقابلے میں ریادہ یابندیوں اور بلند تر معیارات کے مانحت ہونا لازمی ہے۔ وفاقی حکومت کے افسران اور ملازمین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسی طریقہ اختیار کریں گے جس سے حکومت کی اچھی عکاسی ہو۔ گو کہ حکومت اپنے ملازمین کی نجی زندگی میں خاصی دلچسپی رکھتی ہے تاہم یہ اس سے ضرور توقع رکھتی ہے کہ وہ دیانتدار، قابل اعتبار، قابل اعتماد اور اچھے کردار اور شہرت کے مالک ہوں گے۔ سرکاری اور نجی رویے کے بلند ترین معیارات پر روز دنستہ ہوئے پاکستانی میں ایک سرکاری ہمفلٹ میں کہا گیا کہ "سول ملازمت مکمل اور قطعی راست بازی اور سرکاری اور نجی رویے کے بلند ترین معیارات کی انتہائی یابندی طلب کرتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم تسليم شدہ معیارات کی خلاف ورری نہیں کر سکتا۔"

ملوٹ ہو جانے سے ایک سول ملازم کی دیانت و راست باری کے بارے میں شہادت جنم لے سکتے ہیں۔ اپنے سول ملازمین میں ایمانداری کو یقینی بنانے کے لئے حکومت پاکستان نے عام اور تفصیلی قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں تاکہ ان کے چلسی نگرانی کی جا سکے۔ ہمارا تعلق عام ضوابط ہے۔ معاشریتی اور اس سے متعلق سول ملازم کی دوسری سرگرمیوں پر حکومت نے کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کسی سرکاری ملازم کو کسی کو قرض دینے اور نہ کسی سے قرض لینے کی اجازت ہے اور نہ ہی خود کو مالی اعتبار نے کسی ایسے شخص کے زیر احسان رکھنے کی اجازت ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں ہو یا جس کے ساتھ اس کا دفتری تعلق ہو۔

ہر سرکاری ملازم کے لئے لازم ہے کہ وہ ملازمت میں داخل ہونے کے وقت اپنی مستولہ اور غیر مستولہ جایدید ب شامل اسناد، صفاتیں، یہاں پالیسیاں اور زیورات جن کی مجموعی مالیت مبلغ ۵۰۰۰ روپے یا اس سے زیادہ ہو حکومت کو بتائے۔ کوئی سرکاری ملازم یا اس کے کنبہ کا کوئی فرد ایسی سرمایہ کاری نہیں کر سکتا جن سے اس کو پریشانی ہو یا جو اس کے فرائض منصی پر انداز ہوتی ہو۔

کوئی سرکاری ملازم سنے کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ کوئی سرکاری ملازم حکومت کی پیشکی مفظوری کے بغیر کسی بندک یا کسی کمپنی کی ترقی، رجسٹریشن یا انتظام میں حصہ نہیں لے سکتا تاہم وہ کسی مخصوص یا عام ضابطے کے تابع رہتے ہوئے امداد یا بیعی کی انحصار جو کوابریتو سوسائٹیز ایکٹ ۱۹۱۲ کے تحت رجسٹرڈ ہو، ترقی، رجسٹریشن، یا انتظام میں شریک ہو سکتا ہے۔ کوئی سرکاری ملازم حکومت کی پیشکی اجازت کے بغیر اپنے سرکاری فرائض کے علاوہ کسی تجارت یا کام میں خود کو مصروف نہیں رکھ سکتا۔ کوئی سرکاری ملازم سربراہ محکمہ کی پیشکی اجازت کے بغیر اپنی سرکاری ربانش گاہ کو ذیلی کوانٹ پر نہیں دے سکتا۔ ایک سرکاری ملازم کو قرض داری کی عادت سے احتساب کرنا پڑتا ہے۔ کسی سرکاری اپل کار کو اپنے ذرائع سے اونچی معیار سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ اور دوسری تقریبیوں کے موقع پر دھوم دھام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان قواعد کا اصل مقصد ہے کہ سرکاری ملازمین میں دیانتداری کو یقینی بنایا جائی۔ سرکاری ملازمین کو مخصوصات، صفتی نگرانی، سرکاری نیکی، اجازت نامیں (Permits) لائنس اور دیگر معاشی کاروبار سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ ان تمام محاملات میں انہیں حکومت کو تقاضا پہنچا کر اپنی حیب نہیں پہنچا جائے

## جمهوریت میں سرکاری ملازم کا اخلاق

سرکاری ملازمین کے اخلاقی مسائل کا نجی شعبہ کے ملازمین کے اخلاقی مسائل سے موازنہ کرتے ہوئے ماہرین عام طور پر سرکاری ملازمت کا اس طرح حوالہ دیتے ہیں گویا ہے ایک پیشہ ہو۔ مثال کے طور پر وکالت، ذاکری، انجمنٹری وغیرہ کے مساوی حقیقت ہے ہے کہ سرکاری ملازمت تمام پیشوں کا مرکب ہے نہ کہ ایک جس کے لئے ایک علیحدہ انصباط۔ ایک ممتاز تکنیکی تیاری اور اخلاق کا ایک خاص ضابط موجود ہو۔ پیشوں کا مرکب ہے جن میں سے بہت سے خود قلمی اخلاقی معیارات خوبی سے قبول کر لیتے ہیں جاہے کسی بھی سیاق میں کام کریں۔ البتہ بہت سے روز مرہ کے فرائض کے معاملے میں جس میں سرکاری پالیسی پر عمل کرنے کے لئے زیادہ عور و خوض کی ضرورت نہیں ہوتی، ان لوگوں کے اخلاقی معیارات کے جس کی توقع نجی شعبے میں کام کرنے والوں سے کی جاتی ہے اور ان کے درمیان جو حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں امتیاز کرنا مشکل ہوگا۔ اس مضمون کا کوئی بھی انصاف پسند طالب علم یہ تسلیم کرے گا کہ بہر حال عوام سرکاری ملازموں سے نجی شعبوں میں کام کرنے والوں کے مقابلے میں بلند تر اخلاق کی توقع رکھتے ہیں لیکن یہیں لازم ہے کہ سرکاری ملازمین کا اصل روہہ تناظر میں دیکھنا سمجھیں۔ امریکی سینٹ کی ذیلی کمیٹی نے جس نے اپنی ریپورٹ ۱۹۵۱ میں پیش کی کہ تھا "ملک کے اخلاقی معیارات واقعناً اخلاقی ماحول فرائم کرتے ہیں جو اپنی باری میں سرکاری ملازمین کے معیارات کو ڈھالتا ہے۔ اگرچہ جل کر ذیلی کمیٹی نے مزید کہا "ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے اخلاقی معیارات غالباً تجارت اور دوسرے شبہ باشی زندگی کے معیارات سے بلند تر ہیں۔ اس نتیجے پر بھی حکومت اور تجارت دونوں اور دونوں کے مبصروں کی طرف سے ترغیب ان شہادت ملی تھی۔ سرکاری ملازمین بظاہر اخلاقی معیار کے مسائل سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سرکاری ملازمین تنقید کا شاندی بنائے جاتے ہیں جس خفگی کا اظہار کرتے ہیں اس کی جزوی وصاحت ہوں گی جا سکتی ہے کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہوئے ہیں کہ ان کے ناقديں میں سے کچھ تنقید سے ان سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہوتے اگر اس معیار کا ان پر اطلاق کی جائے۔"

### (الف) دیانت

۱. معاشی سرگرمیوں پر پابندی۔ سرکاری سرگرمیوں کم دوران واقفہ یا رابطہ کی بیشاد پروپریتی کے لئے دین یا دوسرے معاشی کاروبار میں لایروائی سے

بھی ملک کو نقصان پہنچی گا۔ این لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلہ سے نہیں کہ لئے کافی پروپیاری اور صوابید سے کام لبا جائی۔

### (ب) بد عنوانی کے اسباب

اب ہم اپنی توجہ سول ملازمین میں خراب عادتوں اور چلن کے غیر تسلی بخش معیارات کے تحریک کی طرف دیں گے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے اس مسئلے پر مرکزی و صوبائی مقنہ میں بحث ہو چکی ہے۔ بہت سی کمیٹیوں اور کمیٹیوں نے بھی اس مسئلے کا حائزہ لیا ہے۔ پریس بھی وقتاً فوقتاً اس پر تبصرہ کرتا رہا ہے۔ مختلف نقاط نظر کا حائزہ ظاہر کرتا ہے کہ سول ملازمین میں بد عنوانی کی موجودگی کی بہت سی وجوبات ہیں۔

۱۔ اخلاقی عامہ کے غیر اطمینان بخش معیارات نے بد عنوانی کی پہلو میں مدد دی ہے۔ سول ملازمین کے اخلاقی معیارات کا گزنا اخلاقی عامہ کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ جو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد حیات عام کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوئی۔ بر طبعوں سند کی تقسیم سے قبل دور نک ہونے والی فسادات نے اسے اور بھی سکنیں کر دیا تھا۔ دستور ساز اسمبلی میں ۱۹۵۳ء میں ایک وزیر نے کہا تھا کہ بعد وسیع دائیے میں فسادات کے نتیجہ میں انقلاب عظیم آیا اور ہرے پیمانے پر ہونے والی لوگوں کی بحث کی وجہ سے ہمارے سماج کی اخلاقی ساخت ذمہی پر گئی اور اخلاقی اقدار نے عملاء پست تربیت سطح کو چھو لیا۔ اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ عوام کی زندگی میں جو زبر پھیل چکا تھا سرکاری ملازمین اس سے بچ رہتے۔ کچھ بھی ہو ہمارے سرکاری ملازمین بھی آخر انسان ہیں۔ وہ شیشی کے گھر میں اکائی جاتی والی پودوں کی مانند نہیں ہیں۔ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس سے ہم سب کا تعلق ہے اور جو فنا پورے ملک پر محیط ہے اس کا ان پر اثر انداز ہونا لازمی ہے۔ اخلاقی معیار کے انحطاط کے اسباب بہت سے ہیں اور پیچیدہ بھی۔

اخلاقی عامہ بند نہیں تھا کیونکہ عوام کی بڑی اکثریت خوفناک غربت کی گرفت ہیں تھیں۔ ہرے پیمانے پر ناخواہدگی معاشرے کا ایک دوسرا پہلو رہا ہے۔ تعدادی ترقی کی سطح کافی تھی رہی۔ اخلاقی عامہ اس وجہ سے بھی رواں پذیر ہے کہ تعلیمی اداروں میں کردار کی تعمیر پر کافی توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسری جانب سیاسی تیاری بھی اعلیٰ نہیں رہی ہے۔ سیاسی لیڈرز کی اکثریت اسلام کا نام لے کر اپنے ذاتی مفادات کے لئے کوشان رہی ہے۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے دوستوں میں ۷۰ کوئی بھی عوام کی بھلانی کو اپنے ذاتی مفادات سے بالا رکھنے کے

اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ان تمام معاملات میں مکمل ایمانداری نہیں ابھی ہے۔ سول ملازم کے لئے سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ وہ شک کے ساتھ سے دور رہے۔ جہاں سرکاری فرائض اور نجی مفادات کے درمیان تصادم ہو وباں تصفیہ نجی مفادات کو سرکاری مفادات کے ماتحت لاکر کرنا چاہیے۔

۴۔ بد عنوانی کے الزامات پاکستان میں اصلًا سول ملازمین میں بد عنوانی، دیانتداری اور ایمانداری کے فیدان کے الزامات عام رہے ہیں۔ بد عنوانی کی زیادتی صرف نجلی درجنوں کے عملے میں ہیں بلکہ اعلیٰ سطحون پر بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں فرمایا تھا ”حاب تحریک سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور کشادہ دلی سے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اعلیٰ سرکاری افسران بھی بد عنوان ہیں۔“ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں مدد فراردادیں منظور کیں تاکہ حکومت کی توجہ اس مسئلے کی سکنی اور شدت کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ پریس میں بھی اس معاہدہ پر کافی لکھا جاتا رہا ہے۔ اگر کوئی وفاqi نقشی ادارے کے کام کا حائزہ ہے تو ان الزامات کی صادقت کا علم ہو جائی گا۔ اس ادارے کے ریکارڈ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بد عنوانی نے جو سکلیں اختیار کی ہیں اور قریب، سرکاری رقوم کی حورہ برد، سرکاری دستاویزات میں تحریف، حابیداد کے حصول میں سرکاری حیثیت کا استعمال اور اقرباً بواری وغیرہ شامل رہی ہیں۔ جن معاملات میں ادارے نے تعقیب کی اں میں ملازمین کو اچھی خاصی تعداد میں عدالت سے سزا بھوئی یا محکمانہ سزا دی گئی۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ نہ لکھنا سرکاری ملازمین کے ساتھ ناتسافی ہو گی کہ ان کی ایک بڑی تعداد میں بعیشہ جرائم اور پیچیدہ مسائل سے نصیلے ہیں اعلیٰ فرض شناسی اور ریاست کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں تمام زمروں اور عہدوں کے ملازمین کی تعداد میں شامل ہیں۔ آج بھی ایسے ملازمین علک کا نظم و نسق اور دوسرے گاروبار حکومت بڑی دیانتداری، محبت اور نکن سے جلا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ سول ملازمین میں کچھ کالی بھیزیں بھی ہیں اور دیسی ہیں۔

ان دوسروں حقائق پر غور کرنے کے بعد ہم اس تجھ پر پہنچے ہیں کہ سرکاری ملازمین میں بد عنوانی کا سدیاب کرنا اور بد عنوانی ملازمین کو سزا دینا یہتھ صروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گی تو ملک کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب اگر سول ملازمین کے خلاف یہ بنیاد الزامات لگائے جاتے رہے تو اس سے

اور دوسری اعلیٰ ملازمتوں کی انکریز افسران شامل نہیں ایک ایسا خلا پیدا ہوا کیا جس کا پُر کرنا آسان نہ تھا۔ تبھا ان کا تجربہ پاکستان کی شی حکومت کو دستیاب نہیں ہوا۔ دوسرے سے کہ اعلیٰ سطح پر مسلمان افسروں کی تعداد بہت کم تھی۔ تیسرا اس طرح خالی اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے حکومت کو مجبوراً اپسے افسروں کو توافق دینی پڑی جو عام حالات میں تجربے کی کمی کی وجہ سے ترقی کے لیے موزوں نہ سمجھئے جائی۔ تبھے یہ نکلا کہ کارکردگی کی سطح کافی حد تک کر گئی۔ دوسری جانب سول ملازمین کو کافی اختیارات مل گئی۔ وہ تخاری کمیبوں اور افراد پر لائزنس، اخراجات نامی، تھیکوں وغیرہ کے ذریعے اثر انداز ہو سکتے تھے۔

۵۔ ۱۹۷۵ اور ۱۹۷۱ کی پاکی بھارت جنگوں نے صورت حال اور بھی خراب کر دی۔ افرانقی میں لوٹ کھوسٹ کا بازار گرم رہا، سول ملازمین چونکے اسی معاشرے کا حصہ بیٹھے وہ بھی کسی سے بیچھے نہیں رہے۔ آج حالت یہ ہے کہ سرکاری جیبیت کا ناجائز استعمال بحالی استثناء، کے قاعدہ بن گیا ہے۔ معاشرے میں قانون اور فاعدے کا احترام سب سے بچلی سطح پر بھی گیا ہے۔ گذشتہ دس سال مارشل لا، کئے دور نے حالات کو اور خراب کر دیا ہے۔ گرانی آسمان کو چھوڑ رہی ہے جس سے لوگوں کی دشواریوں میں بیتھے حصہ ہو گیا ہے۔ حکومت کے چھوٹے ملازمین کی مشکلات خاص طور پر بہت بڑھ گئی ہیں۔ ان حالات نے صرف بدعنوی میں اضافہ کیا ہے بلکہ کارکردگی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔

۶۔ آج منک میں امن و امان کی صورت بھی بہت بی خراب ہے، خصوصاً صوبہ سندھ میں نسلی فسادات کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کی اب تک کی تمام کوششیں اس صورت حال پر قابو پائیے میں ناکام رہیں ہیں۔ ان فسادات کی وجہ سے قومی پیداوار میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تجارتی و صنعتی سوگرمیاں مغلظ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات کا اثر سرکاری ملازمین پر بڑا ناگزیر ہے۔ رشوت کیمیں بہر حال ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حکومتی حکومت حالات کو سدهارنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقدام کیے گئے ہیں جن کے اچھے نتائج نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں معاشی اور معاشرتی استحکام بحال ہوتے ہی سرکاری ملازمین کے روپ میں بہتری کیے لیے تبدیلی آتا ضروری ہے۔

قابل نہیں ہو سکا۔ ان لوگوں کی اکثریت اپنی رنگی اور عمل سے عوام کو اخلاق کی بلند تر ممتاز پیش نہیں کر سکی۔ مختصرًا غربت، جہالت، تمدنی پستی، رینماوں کی پست ذہنیت، مذہبی گرفت کی ذہلی، سیاسی عدم استحکام، موئر پرنس کا فقدان اور رائے عامہ، یہ تمام عوامل مختلف درجن میں معاشرے کا اخلاقی شمارہ بکھیرتے ہے ذمی دار ہیں جیسا کہ حناب ڈکلس نے فرمایا ہے ”بدعنوان معاشرے میں دیانتدار سرکاری ملازم پیدا کرنا مشکل ہے لیکن یہ بھی اتنا بھی سچ ہے کہ سرکاری ملازمین اور عوامی لیدروں کی بلند معیار پوری برادری کی سطح بلند کرتی ہیں۔“

۲۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانوی ہند میں بدعنوی کثیر سے تھی کیونکہ بڑے بڑے نہیکے بدعنوی کے لئے خوب موقع پیش کرتے تھے۔ اس عرصے میں حکومت کو عارضی بنیاد پر بڑی تعداد میں افسروں کا تقرر کرنا پڑتا تھا۔ ان افسروں کی اکثریت کا کوشی مستقبل کھوٹا نہیں تھا، ایں وجد سے وہ بدعنوی میں مشغول ہو جاتے تھے یہاں پاکستان تھواہ کمیشن نے اپنی ریورٹ میں کہا تھا ”سب کو علم ہے جنک کے دوران عارضی افسروں کی فوج نے اخلاقیات کا ایک نیا معاشرہ قائم کیا جس کے اثر میں ہم اب بھی مبتلا ہیں۔“ اس کے علاوہ جنک کے دوران مصارف رنگی بڑھ جانے سے سرکاری ملازمین پر سخت چوت بڑی خصوصاً نجی سطحون پر تقسیم سے قبل افسروں میں فرقہ واریت بھی پھیل گئی تھی۔ اس تمام جیزوں نے آج کے افسروں کے لیے ایک برا ترک چھوڑا۔

۳۔ معاشی پریشانی بدعنوی کے اسیاب میں سے خاص ہے، خصوصاً کم تھواہ والی ملازمین میں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زیادہ دشواری ضروری اشیاء صرف اور خدمتوں کی قیمتیوں میں اضافہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قیمتیوں میں اضافہ کی اصل وجہ خساری کی سرمایہ کاری ہے۔ بہتا مصارف رنگی نہیں دیا جاتا۔ اشاریے کے نام پر کبھی جو کچھ ملتا ہے وہ اتنا ناکافی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مالی مشکلات کی وجہ سے حکومت تھواہ بڑھانے سے قاصر ہے۔ معاشی حالت سے محروم ہو کر بہت سے سرکاری ملازمین رشوت خوری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔

۴۔ انتظامی اہلیت کی کمی بدعنوی کا دوسرا زرخیز ذریعہ ہے۔ پروفیسر کیلارڈ لکھتے ہیں ”سرکاری ملازمت میں نیایا انحطاط آیا ہے۔ یہ ناگزیر تھا اس لیے کہ پاکستان کو غیر منقسم بندوستان کے زیادہ تجربہ کار افسروں کا تھوڑا سا حصہ ورشی میں ملا۔“ اس کی چند وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ تقسیم کے ساتھ میں ملازمتوں کی بالائی پرست کی دست برداری سے جس میں زیادہ تر آئی۔ سی۔ ایس

## دسوائی باب

### نظامت

#### (الف) ناظم کے کام کی نوعیت

افرادی نظام میں ناظم کے کردار کو خصوصی ایمیٹ حاصل ہے کیون کہ اس کا ملارزمیں سے انفرادی طور پر فریضی رابطہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا کام کتنی حوش اسلوبی سے کرتے ہیں اس کا زیادہ دار و مدار اپنے بات ہر ہی کہ وہ ان سے کہتے ہوئے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اسے انسانی تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں بہتر بنانے میں مهارت حاصل ہونی چاہیے۔

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ناظم کے کام کے بنیادی احرار کون کون سے ہیں۔ ناظم کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وہ شخص جو ایک یا ایک سے زیادہ ماتحتوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے لیکن اس تعریف سے یوں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کس قسم کی بدلایات دیتا ہے۔ مینڈیل اور گرین برگ کا خال ہے کہ تمام کاموں میں کچھ عصموں فرائض مشترک ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے ایک فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ماتحتوں سے برناو

۲۔ قی معاملات نمائانا

۳۔ ادارے کی دوسری وحدتوں سے ارتباط

۴۔ ملارزمیں کی ترمیت

۵۔ کام میں بہتری اور سلیقے کی تدبیر

۶۔ حومے کی تعمیر

نظامت کی قی صریحیات میں کافی اختلاف ہے۔ مینڈیل اور گرین برگ بنائیں کہ ناظم کی فنی مہارت پر انسانی رنگیوں کا بھی انحصار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ طیارے کی ہوا باز کی معاملے میں دوسرے قسم کی تلاقری کاموں جیسے عام محرروں کے کام میں بہت ہی کم مارانہ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تابع سب نظارتوں کاموں میں قیادت کی استعداد ضروری ہے۔ عزیز اور یہی اصل مستند ہے کہ ناظم اس وقت تک مجموعی کام میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ قائدانہ صلاحیتوں کا مطابре نہ کرے۔

ہر ناظم تنظیم کے ایک جھوٹے سے حصے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ بہت سی وحدتوں میں سے ایک کے کام کا مذموم دار ہوتا ہے۔ ساتھ یہ اس میں دوسری کام

ربا یہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سادہ لوح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں کوئی کسر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اطلاع نیجے سے اس نک نہیں پہنچ رہی ہے۔

۷۔ قابل ناظم اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی معاونیں اس کے احکامات کو مناسب طور سے سمجھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔

۸۔ لجکدار ذہن کا نافر ایسی ضوابط میں تبدیلی لانے کی گوشش کرتا ہے جو عملاً نتائج حاصل نہیں کرتے۔

۹۔ ایک متوازن ناظم یہ امکان بلکہ غالب امکان تسلیم کرتا ہے کہ اس کے ماتحتوں میں سے کچھ اس سے زیادہ ذہن یا زیادہ لائق ہو سکتے ہیں۔

۱۰۔ غور و فکر کا عادی ناظم اس وقت تک اپنے ماتحتوں سے کوئی وعدہ نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہ ہو گا وہ اسے پورا کر سکے گا۔

۱۱۔ انصاف پسند ناظم اپنے ماتحتوں سے نہ صرف وفاداری کی توقع رکھتے گا بلکہ خود بھی ان کا وفادار رہتے گا۔

۱۲۔ پسندیدہ ناظم اپنے ذاتی دوستوں کی نہ تو طرفداری کرتا ہے نہ بھی ان کے خلاف اختیار برنتا ہے۔

۱۳۔ مضبوط ناظم کو اپنے ماتحتوں کے سامنے صرف اس وجہ سے گھٹنے نہیں شکی دینا چاہیے کہ وہ ان کے دباؤ سے تھک گیا ہے۔

۱۴۔ ناظم کو اپنے ماتحتوں کے مفاد میں اتنی سختی سے لڑنا چاہیے جتنا اس کا شعور اجازت دینا ہے۔

### (ج) تصویر کا دوسرا رخ

مندرجہ بالا چودہ ربپہنچا اصولوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ناظم کی کنندیوں پر کتنی بڑی ذہنی داری ہوتی ہے۔ اب منطقی طور پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ماتحتوں کی کوئی ذہنی داریاں نہیں ہوتیں۔ ان کی ذہنی داریاں بھی ہوتی ہیں جو یہ ہیں۔

۱۔ بورے دن کی تنخواہ کے عرض پورے دن کا کام کرنے۔  
۲۔ کیفیتی اپلیت (Qualitative Efficiency) کی سطح پر اپنے میلان،

تریست اور تجزیے کے مطابق کام انجام دینا۔  
۳۔ ان لوگوں کے انتظامی اختیار کے لیے احترام کا اظہار کرتا جی کو کام کی

ہدایت کی ذہنی داری سوپنی گئی ہے۔  
۴۔ جن خواصیں اور قواعد کے نتائج ان کا منصوبی چلی ہے ان کے بیان اور روح

کی وحدتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ارتباط کی قابلیت بھی بوسی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے دوسرے ناظموں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ضروری ہے اسکے طور سے ثانی الگر کے ساتھ اسے موثر طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اس کی ایک اور انسانی تعلقات عی ذہنی داری ہے جو بہت ہی ابم ذہنی داری ہے۔ اپنے گروہ اور دوسری وحدتوں کے درمیان جو نکہ وہ تنقید ارتباط ہے اس لیے اسے لازم ہے کہ وہ برعکس دلائی والا ہو اور وہ نتائج حاصل کرے جو اس کے ادمیوں کے لیے منعٹ بخش ہوں۔

### (ب) ناظم کی خصوصیات

یون تو موثر ناظم کی کوئی جامع تعریف مشکل ہے۔ نامہ مابرور نہ اس پر توجہ دے کر کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے جو ایک موثر ناظم میں ہونے چاہیں۔

۱۔ وہ ماتحتوں کی قدرشناسی کی خوبیش پوری کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہو کہ ماتحتوں کو بھی ابم نظر آئی کی خوبیش کا حق ہے۔ بدترین ناظم وہ ہوتا ہے جو خود کو بیمیش نہیاں اور ماتحتوں کو نسبتاً گمانی میں رکھتا ہے۔ بہترین ناظم وہ ہوتا ہے جو خود کو بیمیش ماتحتوں کی جگہ رکھتا ہے۔ اس سے قریبی رابطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کے رد عمل، احساسات اور روپیوں کی پیش بینی کر سکتا ہے۔

۲۔ وہ اپنے ماتحتوں کو مناسب طریقے سے مطلع رکھے، یعنی ان سے کوئی ایسی بات پوشیدہ نہ رکھے جس کا انہیں اچھا کام کرنے کے لیے جانتا ضروری ہو۔

۳۔ اپنے ماتحت کو اپنی صوابیدد استعمال کرنے اور جتنے فیصلے وہ خود کر سکتا ہو اسے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

۴۔ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کانفرنس اور مشوروں کے لیے بیمیش دروازے کھلائے رکھتا ہے۔ یعنی اس نک ماتحتوں کی رسانی آسان ہو سی۔

۵۔ خوصلہ منہ ناظم اپنے چند ماتحتوں میں غیر مقبول ہو جاتی کہ امکان کو تسلیم کرتا ہے۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ کسی شخص سے بھی بر شخص کو بر وقت خوش کریں کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن غیر شعوری طور پر وہ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان سے بر بات میں بر وقت اتفاق کرنے جو ممکن نہیں۔

۶۔ حقیقت پسند ناظم ادارے کے ملازمین کی اخلاقی حالت اور اس کی اندرونی حالات کے متعلق زیادہ رجائب پسند نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس بات کا یقین کرے گا جسے وہ صحیح سمجھے گا، لیکن اسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ سمجھا

کی پابندی کرنا۔

۵۔ اپنے سرکاری اور نجی معاملات میں اخلاقی معیار کی مطابق عمل کرنا  
ناکہ سرکاری ملازمت اور اس ایجنسی سے جس نے انہیں اجرت پر لیا ہے  
پسندیدگی کی عکاسی ہو۔

پس ناظم اور ماتحتوں کا رشتہ یا بھی ذمہ داریوں کی شراکت ہوتا چاہیے۔  
اگر کوئی بھی فریق اپنی ذمہ داری پر پورا نہ اترے تو ان شراکت کی دیوالیہ ہو  
جائیے کا امکان رہتا ہے۔

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com**

## گیارہوائی باب

### انضباطی اقدامات اور طریقہ کار

#### (الف) تعارف

کوئی ادارہ اتنا ہے نقص نہیں، کوئی عاملہ اتنی تیز نہیں، کوئی افرادی نظام اتنا ہے خطا نہیں کہ ان میں سے کوئی اپنے ملازمین کے غلط رویہ یا نقص کارکردگی کی بنا پر تادبی اقدامات سے اجتناب کرے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک مابر نے کہے ہیں۔ جب تادبی اقدامات افرادی نظام کا جزو ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے طریقہ کار بھی ہونا لازم ہے۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے بھی دوسرے ملکوں کی حکومتوں کی طرح وفاقی ملازمین کے لیے اس صورت میں جامع قواعد بنا رکھئے ہیں۔ اسی قواعد کار کو قواعد کار کارکردگی و انضباط برائی سرکاری ملازمین (Government Servants Efficiency & Discipline Rules) ۱۹۷۳ء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

#### سرزا کے موجبات

مذکورہ قواعد کے مطابق اگر کوئی سرکاری ملازم حاکم مجاز (Authority) کی خیال میں۔۔۔

۱۔ اہل یا نا اہل ہو گیا ہے، یا

۲۔ غلط روی کا مجرم ہے، یا

۳۔ (الف) اس کے یا اس کی کتبی کم کسی اور شخص کے قبضے میں اس کے توسط سے اتنی مالی وسائل یا جانیدادیں ہیں جو اس کے معلوم ذرائع کے غیر متناسب ہیں؛ یا

(ب) اس نے ایسا طرز رہنمگی اختیار کر لیا ہے جو اس کے وسائل سے باہر ہے یا

(ج) وہ یاداطوار (Corrupt) یوویں کے متواتر شہرت رکھتا ہے؟ یا

(د) وہ تحریکی سرگرمیوں میں ملوٹ ہے، یا اس کے تحریکی سرگرمیوں میں ملوٹ یوویں کا معقول حد تک شہد کیا جا سکتا ہے۔ تو افسر محاذ اس کو مندرجہ ذیل سراویں میں سے ایک یا زیادہ سرائیں دے سکتا ہے۔

تجویز ہو و صاحت ہو گئی۔

(۱) ساتھ ہی ایک افسر تحقیقات یا تحقیقاتی کمیٹی جیسا ہی ہو، مقرر کرے گا اور ملزم سے کہہ گا کہ ایک معمول مدت میں، جو سات دن سے کم اور چودہ دن سے زیادہ نہیں ہو گی، اپنا تحریری جواب افسر تحقیقات کو ارسال کرے جس میں یہ بھی لکھے گا کہ آیا وہ ذاتی سماحت دیے جائے کی خواہش رکھتا ہے۔

(۲) افسر تحقیقات الزامات کی تحقیق کرے گا اور ان کی زبانی یا دستاویزی شہادتوں کا جو الزام کی حمایت یا ملزم کے دفاع میں ہوں معاف کرے گا اور ملزم اپنے خلاف گواہوں پر جرح کرنے کا خفدار ہو گا۔

(۳) تحقیقات کے مکمل ہونے کے دس دن کے اندر افسر تحقیقات اپنی تحقیقاتی ریپورٹ افسر محاذ کو پیش کر دے گا۔

(۴) افسر تحقیقات کی ریپورٹ موصول ہونے اور ملزم کی ذاتی سماحت کے بعد (اگر اس نے اس کی درخواست کی ہے) افسر محاذ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ جب وہ تحقیقاتی ریپورٹ پر غور کرنے کے بعد کسی وقت فیصلے پر پہنچ جائے گا کہ ملزم کو کیا سرا دی جائے تو ریپورٹ کی ایک نقل ملزم کو نہیج دی جائے گی اور اس سے مقرہ مدت کے اندر اظہار وجودہ کے لیے کہا جائے گا کہ کیوں نہ اسے مخصوص سزا دی جائے۔ اس سلسلے میں ملزم سے موصول ہونے والی عرصہ اشت پر فقط احکام حاری کرنے سے قبل غور کرنا ضروری ہے۔

(۵) اگر کوئی سرانی صغير دینے کی تجویز ہو تو افسر محاذ ضروری احکام حاری کر دے گا۔ اگر کوئی سزا کی کبیر دینے کی تجویز ہو تو مسل تمام کاغذات کی ساتھ حاکم محاذ کو پیش کر دے گا۔ حاکم محاذ جو حکم مناسب سمجھے گا صادر کر دے گا۔

جہاں افسر محاذ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی افسر تحقیقات یا کمیٹی کے ذریعے ملزم کی خلاف تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ —

(۱) ملزم کو اس کی خلاف مجوزہ کارروائی اور اس کی موجبات (Grounds) کے متعلق تحریری حکم کے ذریعہ مطلع کرے گا؛ اور

(۲) اس کو مجوزہ کارروائی کے خلاف اظہار وجودہ کا معمول موقع دے گا جس میں ذاتی سماحت کا موقع بھی شامل ہو گا۔ اس شرط کے ساتھ کہ جہاں حاکم محاذ مطمئن ہو کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کی مفاد کی خاطر ایسا موقع دینا قریب مصلحت نہیں ہے تو وہ ایسا موقع نہیں دے گا۔

## (ب) سزا پائے صغیر

### (الف) ملامت (Censure)

(ب) ایک صریح مدت کے لیے ترقی یا سالانہ اضافی کا روکنا جو ترقی کے لیے ناموزونیت یا کسی اور قواعد ملازمت کے مطابق ہوئی کے علاوہ ہو؛

(ج) ایک صریح مدت کے لیے اوقاتی پہمانی (Time Scale) کی حد اپلیٹ (Efficiency Bar) پر روک دینا، ایسی حد کو پار کرنے کی ناابلیت کے علاوہ؛ اور

(د) تنخواہ سے حکومت کے کسی مالی نقصان کی، جو لاپرواٹی یا احکامات کی خلاف ورزی سے ہوا ہو، پوری یا جزوی وصولی۔

### (ج) سزا پائے کبیر

#### (الف) زبرین اسامی یا اوقانی پہمانے کے نجی مرحلا پر تنزلی

#### (ب) جبریہ فارغ خدمتی

#### (ج) ملازمت سے بر طرقی (Removal)؛ اور

#### (د) ملازمت سے موقوفی (Dismissal)۔

ملازمت سے بر طرقی آئندہ زیر حکومت ملازمت سے ناابل نہیں کرتی مکر موقوفی کر دیتی ہے۔

### (د) تحقیقات کا طریقہ کار

جب ایک سرکاری ملازم پر تحریب کاری، بد عنوانی (Corruption) یا غلط روی (Misconduct) کا الزام ہو تو افسر محاذ حاکم محاذ کی منظوری سے اسے جبری رخصت پر بھیج سکتا ہے یا معطل کر سکتا ہے تاہم اس رخصت کی معطلی میں توسعی کے لیے بر تین ماہ بعد حاکم محاذ کی منظوری کی ضرورت ہو گی۔ مزید شرط یہ ہے کہ جہاں حاکم محاذ صدر یا وزیر اعظم ہو تو ان قواعد کے تحت حاکم محاذ کا اختیار متعین، عمل ڈوپیں، استعمال کرے گا۔

افسر محاذ فیصلہ کرے گا کہ آیا معاملے کے حقائق کی روشنی میں یا انصاف کے حق میں افسر تحقیقات یا تحقیقات کمیٹی کے ذریعہ تحقیقات کرانی چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کر لے تو درج ذیل طریقے پر عمل کیا جائے گا۔

(۱) افسر محاذ ایک فرد جرم تبار کرے گا اور اسے کیفیت الزامات (Statement of allegations) کے بماء ملزم کو ارسال کر دے گا۔ کیفیت میں الزامات اور دوسرے متعلقہ قرائن (Circumstances) کی جن کو زیر غور لانے کی

## بارہواں باب

### سرکاری ملازمین اور تعلقات عامہ

#### ۱۔ آزادی سے قبل کی صورت حال

سرکاری ملازمین کی انجمتوں اور پاکستان میں انتظامیہ اور عملی کی درمیان بات چیت کی مستینری سے متعلق کچھ لکھتی ہے قبل بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم ۱۹۴۷ء نک برطانوی بند میں جو صورت حال تھی اس کا مختصر سا جائزہ لے لیں۔ اس کی وجہ طبقہ آزادی کے بعد پاکستان میں سرکاری ملازمین کی انجمتوں کی پوزیشن کم و بیش وہی رہی جو تقسیم سے قبل برطانوی بند میں تھی کیونکہ پاکستان کو بہت سے ادارے اور روایات ورنی میں ملی تھیں۔

۱۹۴۷ء سے قبل پرانے آئی سی ایس افسروں اور دوسری اعلیٰ ملازمتوں کے افسروں کی انجمین کافی اثر نہود اور اختیارات رکھتی تھیں بہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ اعلیٰ ملازمتوں کے افسروں کی ہی ملک پر حکومت رہ چکی تھی اور ان کی انجمتوں سے حکومت ان کے ممبروں سے متعلق عام افرادی معاملوں کی بارے میں مشورہ کیا کرتی تھی۔

درمیانی سطح کی انجمتوں کا کوئی خاص اثر و اختیار نہیں تھا۔ انجمین ثہیک طرح سistem یہی نہیں تھیں ان کو ایسے برداشت کیا جاتا تھا اور ان سے برقرار میں یہ نیازی ہوتی تھی ان کے پاس عام معاملات کے متعلق بادداشتیں اور معروضات بھیج کر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ ان کو ہمیشہ حکومت کی طرف سے جواب موصول ہونے کی توقع بھی نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی تو رسید سے بھی یہ انجمین محروم رہ جاتی تھیں۔ عمل کے معاملات میں فصلی سے قبل حکومت کے ان سے مشورہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

نجیل درجے کے ملازمین کے ساتھ حکومت سردمہزی کا برباد کرتی تھی۔ ملکی تحریک کمیشن (۱۹۴۶ء-۴۷ء) نے اپنی رپورٹ میں اس موضوع پر ایک اچھا جائزہ پیش کیا تھا اور حکومت اور عملی کے درمیان تعلقات کو کچھ توجہ دی تھی۔ ساتھ ہی چند تجاویز بھی پیش کی تھیں جو مندرجہ ذیل تھیں۔

(الف) حکومت اور اس کی ملازمین میں اختلافات کی تسویہ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو نراعی شکل اختیار کرنے سے روکا جائی۔

#### (ہ) حاکم مجاز کا اختیار

حاکم مجاز اگر چاہیے تو کوئی بھی مسئلہ جو افسر مجاز کے پاس نہائے کہ لیے پڑی ہو یا وہ نہایا چکا ہو منگوا سکتا ہے اور اس کے متعلق ایسا حکم صادر کر سکتا ہے جو اس کی خیال میں مناسب ہو۔

#### (و) افسر تحقیقات یا تحقیقاتی کمیٹی کے اختیارات

افسر تحقیقات یا تحقیقاتی کمیٹی کو وہی اختیارات ہوتے ہیں جو مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء کے تحت ایک دیوانی عدالت کو کسی مقدمہ میں کوایاں کو طلب کرنے، دستاویزات پیش کرنے، حلقوی شہادت وصول کرنے اور کمیٹس برائے اظہار گواہ یا دستاویزات حاری کرنے کی سلسلے میں ہوتے ہیں۔

#### (ز) کارروائی کی حیثیت

ان قواعد کے تحت کارروائی نظریات پاکستان کی دفعات ۱۹۴۳ اور ۲۲۸ کی رو سے عدالتی کارروائی نصوح کی جائے گی۔

و صاحت ۱۔ مذکورہ طریقہ عمل کا ان معاملات پر اطلاق نہیں ہوگا جہاں کسی سرکاری ملازم کو کسی عدالت سے قید یا جرمانی کی سزا کے تبعیج میں پر ملک یا موقوف کر دیا گیا ہو، یا جہاں ملزم کو موقوف یا برطرف کرنے کا حاکم صغار مطمئن ہو کہ اس کی مرقوم وجوہات کی بنا پر ملزم کو اظہار وجود کا نوٹس دینا عملانہ ناممکن ہے۔

#### (ح) ایبل

جن شخص کو کوئی سزا دی جائے اسے قواعد ایبل برائی سول ملازمین ۱۹۴۷ء کے تحت ایبل کا حق حاصل ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جہاں سزا صدر یا وزیراعظم کے حکم سے دی جائے وہاں ایبل نہیں ہوگی بلکہ متعلقہ شخص ان احکامات پر نظریاتی کے لیے درخواست دے گا۔

#### (ط) وکیل کی حاضری

ان قواعد کے تحت کارروائی کے مسلسلے میں کسی فریق کی نمائندگی حاکم مجاز، افسر مجاز یا افسر تحقیقات کے سامنے بذریعہ وکیل نہیں ہو سکتی۔

تھی۔ صرف غیر جریدہ عملی کی انحصاری بنا کی اجازت تھی۔ اب جنکہ دوبارہ جمہوری حکومت وجود میں آئی ہے تو بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ سرکاری ملازمین کی انحصاری سازی کے متعلق زیادہ وسیع النظری سے کام لیا جائی گا۔ خصوصاً اس وحہ سے کہ بیادی حقوق بحال کر دیے جائیں گے اور تمام یابندیاں ختم کر دی جائیں گی، نہ صرف یہ بلکہ اس سلسلی میں مزید حوصلہ افزائی کی جائی گی اور انجمانوں کو وہ اپمیت دی جائی گی جس کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:**

(ب) اگر کوئی سوال نفع کی سکل اختیار بھی کر لے تو اس کا تصفیہ کسی بیرونی مشینری کے بغیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی دونوں فریق کے درمیان گفت و شد کے ذریعے۔

(ج) اگر بیرونی مدد لینا ضروری ہو بھی جائیے تو یہ وساطت (Mediation) نہ کبہ حکم (Adjudication) کے مقصد کے لیے یونا چاہیے۔

(د) اگر مصالحتی کوششیں ناکام ہو جائیں تب رضاکارانہ یا رضامندی سے حکم کی جستجو کی جائی چاہیے نہ کہ زبردستی۔

## ۲۔ پاکستان میں انحصاری سازی

پاکستان میں عملی کی انجمانوں یا یونیٹوں کی صحیح تعداد بنانا مشکل ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی انحصاری حکومت سے منظور شدہ ہے۔ حکومت سے منظوری کے لیے انجمانوں کو کچھ شرائط پوری کرنا لازم ہے۔ صفتی سول ملازمین کے لیے اولیں شرط یہ ہے کہ وہ تریڈ یونیٹ ایکٹ ۱۹۶۶ کے تحت خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔ ایکٹ میں چند استحقاق اور حقوق کی گنجائش ہے ساتھ ہی یہ کچھ یابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ غیر صفتی سرکاری ملازمین کی انجمانوں کو حکومت کی مقدار کردہ شرائط کی یابندی کرنا پڑتی ہے جن میں سے سب سے ابھی ہے ہے۔

(ا) بر انحصاری سرکاری ملازمین کے ایک درجے پر مشتمل ہونی چاہیے۔

ب۔ اس کی عمدہ دار اسی انحصار کی مصروفوں میں سے منتخب ہو سکتے ہیں۔

ج۔ کوئی انحصار کسی سیاسی جماعت سے الحاق نہیں کر سکتی، نہ بھی ملک کی مفاد کے خلاف تنقید کر سکتی ہے۔

د۔ بر انحصار کی لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قواعد، حسابات کی سالانہ کیفیت اور ممبران کی فہرست کی تقول حکومت کو پیش کرے۔

پاکستان کی بر تحریک عملی شروع سے کمزور رہی ہے، اس کی ذمہ داری حکومت کے کندھوں پر ہے جس نے آزادان بالیسی اختیار نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو اب تک عملی کی انجمانوں کو آزادانہ قائم کرنے کی اجازت کی اپمیت کا ادراگ نہیں ہے۔ دوسری وجہ غالباً یہ ہے کہ حکومت کو خداشہ ہے کہ انجمانوں کی قوت میں اضافہ ان کو زیادہ تنخواہ اور دوسری شرائط کا مطالبہ کرنے کی طرف مائل کرے گا جس سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔

ایکٹ سول ملازمین ۱۹۷۳ کی نفاذ کے بعد جو حکمت عملی حکومت نے اپنائی اس کی تحت سرکاری افسروں کی انحصاری سازی پر مکمل یابندی لگا دی گئی

## تیرہواں باب

### انتظامی اصلاحات

- ۲۰ اگست ۱۹۷۳ء پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی تاریخ کو اس وقت کہ وزیر اعظم نے ملک میں انتظامی اصلاحات کا اعلان کیا تھا، اس اعلان میں حکومت کے مندرجہ ذیل بنیادی فیصلے شامل تھے۔
- (الف) تمام ملازمتیں اور کاذر ایک متعدد درجہ بند ڈھانچے میں ضم کر دیے جائیں گے جس میں ان تمام لوگوں کے لئے جو مطلوب پیشہ وراث اور ماہرائے اپلیٹ کی بنیاد پر جو بر کام کے لئے ضروری ہے، کسی مرحلي پر ملازمت میں داخل ہوں گے برابر کے موقع حاصل ہوں گے۔
- (ب) سرکاری ملازمتیں میں تمام "درجہ" منسوخ کر دیے جائیں گے اور واحد متعدد درجہ بند ڈھانچے سے تبدیل کر دیے جائیں گے، ایک ثابت قاصد یا مساوی سب سے بیچھے اور ایک معتمد یا سربراہ محکم چوٹی پر۔
- (ج) "ملازمت" کے لیبل کا استعمال آئندہ تر کر دیا جائیں گا۔
- (د) متعدد ڈھانچے پوری سرکاری ملازمت کے دوران بلند تر اسامیوں پر ترقی کے استحقاق کی کنجائش کے لئے وضع کیا گیا ہے، ایک کاذر سے دوسرے میں افقی حرکت کے لئے بشرطی افراد کی عمومی انتظام کے کاذر میں حرکت جس میں انتظامی نویخت کی اسامیاں ہوتی ہیں اور غیرمعمولی قابلیت کے لوگوں کے لئے بغیر باری کے ترقی کا موقع بھی ہو گا۔
- (e) بر اسامی کی صحیح درج بندی (Grading) قدر بندی کار، تفصیل کار، پیشہ وراث اپلیٹ اور ماہر اسی ذریعہ منیں کی جائیں گی۔
- (f) تمام درجون اور ملازمتوں کے واحد متعدد درجہ بند ڈھانچے جس میں ہو جائی پر مختلف فعلی (Functional) اور پیشہ وراث ملازمتیں ایک ملازمت کی شاخیں ہیں جائیں گی۔
- (ز) اس بات کی کنجائش ہو گی کہ حکومت نجی شعبے جیسے بنکاری، صنعت، بیمه اور تجارت نے ذریعے پیشوں سے ذینی افسروں کو وفاqi اور صوبائی ایوان پائیے حکومت اور محاکموں اور حکومت کی زیرانتظام کارپوریشنوں، خود مختار و نیم خود مختار اداروں میں مناسب سطح پر

صوبائی متحده گریدز میں صوبائی ملازمتوں اور اسامیوں کو شامل کہا گیا۔ ان کے متعلق مرید قواعد بنانے کی ذمی داری صوبائی حکومتوں کو سونپی گئی۔ مندرجہ بالا کارروائی کی بعد پاساٹیٹ تشکیل دی گئی سول ملازمتوں کی جگہ پیشہ ورانہ گروپوں (Occupational Groups) کے وضع کرنے کا سوال زیر غور آیا۔ اس سلسلی میں عملہ ڈوبین نے تمام وزارتوں اور ڈوبینوں سے ضروری اطلاعات حاصل کرنے اور ان سے تفصیلی گفت و شنید کرنے کے بعد مندرجہ ذیل پیشہ ورانہ گروہ وضع کئے۔

### کل پاکستان متحده گریدز

تاریخ تشکیل	نمبر شمار	نام	بیسٹ مجاز
۱۹۷۵۔۰۔۲۱	۱	گروہ صنعتی انتظامیہ	عملہ ڈوبین
۱۹۷۵۔۰۔۲۲	۲	گروہ سیکرٹریٹ	عملہ ڈوبین
۱۹۷۵۔۰۔۳۱	۳	گروہ بولیس	عملہ ڈوبین
۱۹۷۵۔۰۔۸	۴	گروہ تجارت و بیویار	وزارت تجارت و بیویار
۱۹۷۵۔۰۔۹	۵	گروہ کشم و آئکاری	مرکزی محاصل بورڈ
۱۹۷۵۔۰۔۹	۶	گروہ محصول امنی	مرکزی محاصول بورڈ
۱۹۷۶۔۰۔۲۵	۷	گروہ معاملیات دان و تضویہ بندی و منصوبہ ساز	تصویبی بندی و ترقیاتی ڈوبین
۱۹۷۶۔۰۔۸	۸	گروہ امور خارجہ	وزارت خارجہ
۱۹۷۶۔۰۔۱۷	۹	گروہ اطلاعات	وزارت اطلاعات و نشریات
۱۹۷۶۔۰۔۱۱	۱۰	گروہ فوجی اراضیات و وزارت دفاع	چھاؤنی
۱۹۷۵۔۰۔۲۱	۱۱	محاسب اعلیٰ پاکستان	گروہ حسابات
۱۹۷۵۔۰۔۱۲	۱۲	ناظم اعلیٰ ڈاکی	گروہ دفتری انتظام
۱۹۷۵۔۰۔۲۰	۱۳	ناظم اعلیٰ ڈاکی	عملہ ڈوبین

نوٹ: بعد میں گروہ بولیس اور گروہ امور خارجہ کے نام بدلتے ہیں جو اسی ترتیب بولیس سروس اف پاکستان اور فارن سروس اف پاکستان رکھے گیا۔ پہلی یہ بات وضاحت کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان پاساٹیٹ تشکیل شدہ سابق ملازمتوں کو پیشہ ورانہ گروہ میں تبدیل کیا گیا جو غیر تکنیکی نوعیت کی تھیں اور جن میں بھرتی کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن

عملہ ڈوبین نے اس سلسلے میں ضروری بدایات ۲۱ اگست ۱۹۷۴ء کو جاری کر دی تھیں۔ جس کے مطابق مندرجہ بالا فیصلوں کا نفاد فوری طور پر کر دیا گیا تھا۔ چونکہ ان کے نفاذ کے لیے تفصیلی مشق کی ضرورت نہیں اس لئے بدایات میں کہا گیا کہ یہ کام عملہ ڈوبین نام وزارتوں اور دوسرے اداروں اور صوبائی حکومتوں کے مشورے سے کرے گا۔

ساتھ میں کچھ اقدامات اور بھی کہے گئے جو مندرجہ ذیل ہے۔

۱. چونکہ کل پاکستان ملازمتوں میں شامل اسامیوں کی ایک متحده کاڈر ہوتا تھا اس لئے ایس۔ بی (تشکیل و کاڈر) قواعد میں مناسب ترمیم کر دی گئی۔
۲. آئین کے تحت حکومت یاپنہ تھی کہ سرکاری ملازمین کی ملازمت کی شرائط کی تکرانی کے لیے ایک قانون وضع کرے۔ لہذا صدر پاکستان نے اس مقصد کے لیے سول ملازمین ارڈیننس ۱۹۷۴ء جاری کر دیا جو بعد میں سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۶ء میں تبدیل کر دیا گیا۔

۳. اس وقت کے قواعد کارکردگی اور انتظام (Efficiency & Disciplinary Rules) کو بوجھل (Cumbersome) سمجھا گیا اور خیال کیا گیا کہ اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہوتی ہے اس لئے انتظامی اصلاحات کمیٹی کی سفارش پر اس میں مناسب ترمیم کر کے اسے سیل بنا دیا گیا۔

۴. آئین میں یہ بھی تھا کہ پبلک سروس کمیشن کے کام سے متعلق بھی مناسب قانون جاری کیا جاتی گا۔ لہذا فیڈرل پبلک سروس کمیشن تشکیل دیتے کے لیے ایک ارڈیننس جاری کر دیا گیا۔

۵. مندرجہ بالا دونوں قوانین میں یہ گنجائش تھی کہ ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری قواعد بنائی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ قواعد بنا لیے گئے۔ سابق ملازمتوں کے لیے منسوج ہونے کے بعد تمام سول ملازمتوں اور اسامیوں کو مندرجہ ذیل نئی متحده گریدز میں شامل کر دیا گیا۔

۶. کل پاکستان متحده گریدز (All Pakistan Unified Grades)

(Federal Unified Grades)

(Provincial Unified Grades)

۷. صوبائی متحده گریدز (Provincial Unified Grades)
۸. کل پاکستان متحده گریدز میں سابقہ کل پاکستان ملازمین یعنی سی۔ ایس۔ کل پاکستان متحده گریدز میں سابقہ کل پاکستان ملازمین یعنی سی۔ ایس۔ ہی اور بھی۔ ایس۔ ہی کو شامل کیا گیا۔
۹. وفاقی متحده گریدز (Provincial Unified Grades)
۱۰. وفاقی متحده گریدز (Federal Unified Grades)

سالانہ مندرجہ امتحان منعقد کیا کرتا تھا۔ یہی طریقہ اب بھی رائج ہے۔ تکنیکی قسم کی اسامیوں جیسے انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ کیلئے پیشہ وراثہ گروہ نہیں بنائے گئے۔

اگرچہ چل کر انتظامی اصلاح کے طور پر سرکاری ملازمین کی فارغ خدمتی کی عمر ۵۸ سال سے برزا کر ۶۰ سال کر دی گئی۔ اس فیصلے کا اطلاق وفاق میں ۱۹۷۶ نومبر سے اور صوبوں میں ۲۳ نومبر ۱۹۷۶ سے ہوا۔

اس بات کو ختم کرنے سے قبل یہ بنا ضروری ہے کہ انتظامی اصلاح کو ایک عمل مسلسل سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی کمیشن یا کمیٹی شکریہ دینا ضروری نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کمیٹیوں اور کمیشنوں کی روپرثون کو وہ توجہ نہیں ملتی جس کی وجہ میں اسکے نفعیتی پر بحث کیا جائے۔ پاکستان میں بدقدامتی سے انتظامی تحقیق کی وجہ پر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں بدقدامتی سے انتظامی تحقیق کی وجہ پر بھی رکھی جا سکتی ہے۔

پرانی روایت پر چلتی ہوئی حکومت نے ۱۹۸۹ء میں ملازمتوں میں اصلاح سے متعلق ایک کمیشن جناب دراب پیش، ریٹائرڈ جج، سیریم کورٹ، کی سربراہی میں قائم کیا تھا جس کی فرائض کار میں گذشتہ انتظامی اصلاحات پر عمل درآمد کا جائزہ لینا شامل تھا۔

## برطانوی بند میں سول ملازمت

### ۱۔ سول ملازمت کی ارتقائی تاریخ

برطانوی بند میں سول ملازمت انقلابی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حاکمانہ طاقت بنتی تو اس کی تجارتی ملازمت ایک معہودہ (Covenanted) اور بہت منظم ملازمت میں تبدیل ہو گئی۔ کمپنی سے جب اقتدار تاج برطانیہ کو منتقل ہوا تب بھی سول ملازمت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تعليم یا قہہ بندوستانیوں کا اعلیٰ ملازمت میں داخل ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ ساتھ ہی ملازمت کا نظام اور ذہانچہ بھی پیچیدہ ہوتا گیا لہذا ملازمت کو چند کمیشنوں کی توجہ کی ضرورت پڑی تاکہ اسے بہتر خطوط پر منظم کیا جا سکے۔ ۱۹۱۹ء کے ایکٹ کا جس کے ذریعہ بندوستانی صوبوں میں ذمہ دار حکومتوں کا قیام عمل میں آیا، سول ملازمت پر بہت اچھا اثر پڑا۔

برطانوی بند میں سول ملازمت کو ادوار کی اعتبار سے مندرجہ ذیل چار ادوار میں آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے:

- (الف) ۱۹۰۱ء سے ۱۹۷۲ء تک تجارتی ملازمت۔
- (ب) ۱۹۷۲ء سے ۱۹۵۵ء میں مقابلے کی امتحانات کے نفاذ تک۔
- (ج) ۱۹۵۶ء سے ۱۹۶۰ء میں اپلکاروں کے راج میں کمی تک۔
- (د) ۱۹۶۱ء سے ۱۹۶۷ء تک آزادی کا سال۔

### (الف) تجارتی ملازمت (۱۹۰۱ء تا ۱۹۷۲ء)

ستھوپنی صدی کے شروع سے انہاروں صدی کے ساتھیں عشرے تک ایسٹ انڈیا کمپنی بنیادی طور پر ایک تجارتی کاریوں پر بنتی تھی اور اس کے ملازمین کی خاص مصروفیت تجارت تھی۔ صرف محدود حد تک وہ قانونی، عدالتی، انتظامی اور میونسپل فرائض کارخانوں اور تجارتی کوٹھوں کے اندر انجام دیتے تھے۔

کمپنی کے ملازمین پانچ درجوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ نو آموزمن، گماشہ، سوڈاگر صغير اور سوڈاگر کبیر (-) تقرر کے بعد میتوں کو اقرار ناموں پر دستخط کرنے پڑتے تھے اور میں جو کی ملازمت کی شرائط فرائض اور عمر و پیمان شامل ہوتے تھے۔ اس لیے اس ملازمت کو معہودہ سول ملازمت کا نام دیا

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی روز کریں:** [www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

تربیت کے لئے ایک نظام کی ضرورت اور ابہمیت کو محسوس کیا۔ لہذا اس نے ایک تفصیلی اسکیم تیار کی اور جامع تجویز ناظموں کو ارسال کیں۔ اس نے خود بھی ابتدائی اقدامات کیے اور ناظموں کی منتظری کا انتظار کیے بغیر ۱۸۰۰ء میں کلکٹ کورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کا مقصد آزادانہ اور ماہرانہ تعلیم و تربیت کا ابہم کرنا تھا۔ اس کے مطابق نصاب تیار کیا گیا جس میں ادب، سائنس اور بندوستی مضموم تھا۔ اس کے مطابق ختم کر دیا گیا لیکن ویلزی کا جو پیشادی مضموم شامل تھا۔ ۱۸۵۳ء میں کالج ختم کیا گیا لیکن ویلزی کا جو پیشادی محسوس کیا گیا اسکیم کے پیچھے کار فرما تھا اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس کی کوششیں ۱۸۰۰ء میں بار آور ہوئیں جب ناظموں نے اس کی تعلیم کے تصور کو منظور کر لیا اور انہوں نے خود بیل بری کالج (Haileybury College) انگلستان میں قائم کیا۔ جس کا مقصد ایسے اہل افراد مہما کرنا تھا جو مختلف اور ایم فرائض انجام دے سکیں۔ جن کا انجام دینا کمپنی کی ملازمین کے لئے ضروری تھا۔ ادارے کو ۱۸۱۲ء کی ایکٹ کی رو سے قانونی حیثیت دے دی گئی جس کے مطابق ناظموں کے نامزد کردہ نوجوانوں کے لئے اس میں دو سال گزارنا اور بندوستی میں بطور کاتب (writer) مستقل کیے جائے سے قبل ایک امتحان پاس کرنا ضروری تھا۔ بیل بری کے حق میں بہتریں دلیل بہ تھی کہ یہ ایک فرمی کتبی جسمی جذبات پروان چڑھاتا تھا۔ اس کی وجہ سے مملکت بند کا نظم و نسق ایسے لوگ چلاتے تھے جو ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتے تھے اور دوستہ ماحول میں سب مل کر محنت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر اعتقاد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بندوستی میں قابل اعتماد ہے۔

۱۸۵۳ء کی ایکٹ نے معہودہ سول ملازمت مقابلے کے امتحان کے لیے کھوں دی۔ کہا یہ گیا کہ مقابلے کا نظام سب کو بوابر کا موقع فراہم کرتے ہوئے انتخاب کی دائرے کو وسیع کر دے گا۔ کم سے کم نظری (Theoretical) حد تک۔ پروفیسر راسی نے فرمایا کہ کھلے امتحان کا طریقہ جمیشوری اور منصانہ ہے اس لیے کہ یہ سب آئندہ والوں کے ساتھے باللحاظ دولت اور معاشرتی حیثیت یکسان برناو کرنا ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کے متعلق رائے اس بنیاد پر قائم کرنا ہے کہ کسی خاص کام کو انجام دینے کے لئے ان کی صلاحیت کیا ہے اور اس طرح بد افراد کو ان کے خاندانی تعلقات اور وراثت کے حوالی کے بغیر مقرر کردہ امتحان اور شرائط کے عام قاعدے کے مطابق منتخب کرتا ہے۔

#### (۱) میکالے کمیٹی رپورٹ (۱۸۵۳ء)

اس بنیادی تبدیلی کا برطانوی بند کی سول ملازمت پر نمایاں اثر ہوا۔ اس

ملازمت کی شرائط ناموافق تھیں۔ تنخواہیں مسحکھ جیز حد تک کم تھیں اور میعاد ملازمت کی کوئی صفائح نہ تھیں۔ بہت سے لوگ اس کم تنخواہ میں تجارت کے ذریعے اضافہ کرتے تھے۔ وہ اپنے بین دین میں غیر محتاط تھے۔ وہ سوگات اور تحفے آزادی سے قول کیا کرتے تھے۔

#### (ب) انتظامی مشینری (۱۸۵۵ تا ۱۸۷۲ء)

محاصل کی انتظام کی براہ راست ذمہ داری لینے کے بعد کمپنی کو عمد بھرتی کرنا پڑا اور ساتھ ہی ایک انتظامی مشینری بنانا پڑا۔ انتظامی مشینری کو مرحلہ وار مکمل کیا گیا۔ بد کام وارن بیشنگر نے شروع کیا اور کاربنوالس نے اسے مکمل کیا۔ مسلسل تجربوں کے بعد اضلاع پدرج نظم و نسق مال کی اکائیاں بن گئیں۔ جن کی محصلی مستقل اور نمایاں خصوصیت تھی اور آج بھی یہی صورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ صلحی افسروں کی تکرانی کے لئے کمیٹروں کا تقرر عمل میں آیا اور ان کے اوپر مجلس محاصل (Board Of Revenue) قائم کی گئی۔ اس طرح نظم و نسق مال اور امن و امان کی انتظامی مشینری بننا شروع ہوئی۔ کمپنی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے عہدہ برا بونے کے لئے بہت سے ماتحت دفتر بھی تخلیق کیے گئے۔

#### (ج) ملازمت کا حوصلہ

جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کمپنی کے ملازمین کا حوصلہ بہت پست تھا۔ وارن بیشنگر، کاربنوالس اور ویلزی نے معہودہ سول ملازمین کے حوصلے بھانتداری اور ابیلت کو بڑھانے کی کوششیں کیں۔ بیشنگر نے ان کی جائزی یافت میں اضافہ کیا۔ اسے ملازمت کو اس دلدل سے جس میں وہ پہنسی ہوئی تھی نکالنے میں خاصی کامیابی ہوتی۔ کاربنوالس نے یہی اس سمت میں متعدد اقدامات کیے۔ اول سول ملازمین کی تنخواہ اور الاونس کافی بڑا ہے تاکہ وہ اچھی اور باعزت زندگی گزار سکیں۔ دوم اس نے سرپرستی کے ناجائز استعمال کی خلاف جو کہ ملازمت میں داخلی کا طریقہ تھا جنک کی۔ سوم تمام اعلیٰ اسامیاں یورپیوں کو عطا کر دین کیونکہ بندوستیاں کی قابلیت کے بارے میں اس کی رائی خراب تھی۔

#### (د) تربیت

ویلزی نے معہودہ سول ملازمت میں نئے بھرتی ملازمین کی منظم اور مناسب

بعیر براہ راست بو سکتا تھا۔  
 شاہیں معموریہ تکمیر مرکزیت (Royal Commission for Decentralization) نے مرکزی حکومت کے صوبائی حکومت پر صوبائی اور ماتحت ملازمتوں کی تنظیم سے متعلق انصباط میں نرمی کرنے کے لئے جامع تجاویز پیش کیں۔ پولیس ملازمت (Police Service) کو کمیشن کی قریبی توجہ ۱۹۰۵ء میں ملی۔ اس کی سفارشات پر عمل درآمد کی نتیجے میں عمدہ طریق سے منظم پولیس ملازمتوں۔ سلطانی پولیس ملازمتوں یورپیوں پر مشتمل جو کہ سب کے سب ایکسلستان میں بھرتی ہوتی تھی اور صوبائی اور ماتحت ملازمتوں جو برطانوی بند میں بھرتی کیے گئے لوگوں پر مشتمل تھیں، وجود میں ائم۔

### ۳۔ اسلنگٹن کمیشن (۱۹۱۲ء-۱۹۱۵ء)

حکومت نے ۱۹۱۲ء میں لارڈ اسلنگٹن کی زیر صدارت ایک پلک سروس کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے مختلف ملازمتوں میں بھرتی کے مسئلے میں تقرر کی جکہ بندوستانیوں کے لئے نتاسب اور بھرتی کے طریقوں کے نقطہ نظر سے تحقیق کی۔ جہاں تک تقرر کی جگہ کا تعلق تھا کمیشن نے اعلیٰ ملازمتوں کو چار گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اول وہ ملازمتوں جن کی بھرتی کلیتہ برطانوی بند میں ہوتی تھی دوم اندیش سول سروس اور انذین پولیس سروس ان میں غالب اکٹریت برطانیہ میں ہوتی تھی کو کچھ بھرتی پہلی بار بندوستان میں بھی ہوتی تھی۔ تیسرا گروہ میں تعلیم، طب، تعمیرات عامہ، انجنئرنگ وغیرہ سے متعلق ملازمتوں رکھی گئیں اور ان میں بھرتی جزوی طور پر برطانیہ میں اور جزوی طور پر برطانوی بند دونوں میں ہوتی تھی۔ ای ملازمتوں میں مشرقی اور مغربی دونوں عناصر کی امیرش ضروری تھی تاکہ دونوں ملکوں کے باشندوں کے درمیان مقابمت کو فروغ دیا جا سکے۔ چوتھا گروہ سائنسی اور تکنیکی ملازمتوں پر مشتمل تھا جس میں بھرتی برطانیہ اور برطانوی بند دونوں میں ہوتی تھی۔ آخر میں ان ملازمتوں کی ضرورتیں برطانوی بند میں پوری کی جانب تھیں اس اتنا میں بندوستان میں فنی قابلیت رکھنے والی آدمیوں کی کمی کے باعث برطانیہ میں بھرتی کی جاتی تھی۔ کمیشن نے یہ دلیل پیش کی کہ بندوستان میں تعلم کے بھرتی ہونے پر مقابلے کا نظام فائدے کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نامزدگی کو اچانک مقابلے میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تبدیلی موجودہ حالات کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اس وقت تک نامزدگی کے طریقے کو اس کی ممکنہ خرابیوں سے تحفظ کیے ساتھ ہاری رکھنا تھا۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ

نے آئی۔ سی۔ ایس۔ (I.C.S) کی لازمی خاصیت منعی کی۔ Sir Percival Griffiths نے لکھا کہ خواہ کچھ بھی ہو کھلے مقابلے نے آئی۔ سی۔ ایس کو تقریباً سو سال کی لیے مکلف کر دیا ہے اور اس نے کم سے کم بلند ذہنی معیار کی صفائح فراہم کر دی ہے۔ اس طرح معہودہ ملازمت اصطلاح کے جدید مفہوم میں ایک مکمل سول ملازمت بن گئی۔

### (۲) ایچیس کمیشن (۱۸۸۶ء-۱۸۸۷ء)

حکومت بند نے ۱۸۸۶ء میں سر سی۔ یو ایچیس کی صدر نشینی میں ایک پلک سروس کمیشن قائم کیا جسے یہ بدائیات دی گئیں کہ وہ ایک ایسا منصوبہ پیش کرے جس کے باعث میں معقول حد تک امید کی جا سکے کہ اس میں قطعیت کی عناصر موجود ہیں اور جو بندوستانیوں کی پلک ملازمت میں اعلیٰ اور زیادہ اسامیوں کے مطالیے کے ساتھ اتصف کر سکیں۔

کمیشن نے بندوستانیوں کے اس مطالیے پر کہ معہودہ سول ملازمت کے لیے انگلستان اور بندوستان میں ایک ساتھ امتحان منعقد کیا جائی۔ مفصل غور کیا مگر اسے مسترد کر دیا۔ کمیشن نے بھر حال یہ سفارش کی کہ زیادہ سے زیادہ عمر کی حد بڑھا دی جائی۔ نیز یہ کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کی حد بالترتیب (۱۶) اور (۲۲) سال ہونی چاہیے۔ کمیشن کی دوسری سفارش امتحان کے نصاب کے متعلق تھی۔ کمیشن نے پلک ملازمت میں بندوستانیوں کے اعلیٰ اور زیادہ نوکریاں حاصل کرنے کے لیے نئے اقدام کی سفارش کی۔ تجویز پیش کی گئی کہ معہودہ سول ملازمت کے لیے محفوظ کی گئی اسامیوں کی تعداد کم کر دینی چاہیے اور ہر صوبی کے لیے بھرتی علیحدہ ہونی چاہیے۔

کمیشن نے یہ بھی تجویز کیا کہ صوبائی سول ملازمت کے ممبران کو معاشرتی مساوات کے لحاظ سے معہودہ سول ملازمتوں کی سطح پر ہی ہونا چاہیے۔ حکومت نے کمیشن کی سفارشات پر چند ترمیموں کے ساتھ سول ملازمت (Civil Imperial Civil) کا نام بدل کر سلطانی سول ملازمت (Civil Service Of India) رکھنے کی بجائے بندوستانی سول ملازمت (Service Cadre) کو صوبائی سول ملازمتوں میں کچھ جدولی اسامیوں کو منقل کر کاذر (Cadre) کے نام سے معروف ہوئی۔ معہودہ سول ملازمت کے کم تو نہیں کیا گیا تاہم جدول میں شامل اسامیوں کی ایک خاص تعداد صوبائی سول ملازمت کے ممبروں کے لئے کھول دی گئی اور یہ فہرستی اسامیاں (Posts Listed) کھلائیں جن پر ملازمت کے ممبران کا تقرر آئی۔ سی۔ ایس کا ممبر ہوئے

دوسرے سوالوں کا از سر نو مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائی۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں لی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ جس کا مختصر تعارف حسب ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

### ۵۔ لی کمیشن (۱۹۲۳ء)

برطانوی بند میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے ایک کمیشن ۱۹۲۳ء میں برطانوی بند میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے ایک کمیشن کی اصل سفارش اعلیٰ ملازمتوں کو بندوستانی بنائی سے متعلق تھی جس کی بھرتی اور تنگرانی پھر یہی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی کرنی تھی۔ آئی۔ سی۔ ایس کے لیے کمیشن کی تجویز ہے تھی کہ بیس فی صد اعلیٰ اسامیاں بھی۔ سی۔ ایس سے بذریعہ ترقی پر کی جائیں اور براہ راست بھرتی کے بھوئے لوگوں میں یورپی اور بندوستانی برابر تعداد میں ہوں۔ انڈین پولیس سروں میں براہ راست بھرتی کے گئے افسروں میں یورپی اور بندوستانی پانچ اور تین کے تناسب سے ہوں۔ جبکہ بیس فی صد خالی اسامیاں صوبائی پولیس ملازمت سے بذریعہ ترقی پر کی جائیں۔ آئی۔ ایف۔ ایس (Indian Forest Service) میں محورہ بھرتی کا تناسب بندوستانیوں کے لیے پچھتر فی صد اور بوریبوں کے لیے پچھس فی صد تھا۔ آئی۔ ایس۔ ای (Indian Service of Engineers) کی آبیashi شاخ کے لیے کمیشن کی سفارش تھی کہ یورپی اور بندوستانی برابر تعداد میں لیے جائیں لیکن بیس فیصد اسامیاں صوبائی ملازمتوں سے بذریعہ ترقی پر کی جائیں۔ جہاں تک مرکزی ملازمتوں کا تعلق تھا کمیشن نے تجویز کیا کہ سیاسی محققے (Political Departments) میں ۲۵ فی صد خالی اسامیاں بندوستانیوں سے پر کی جائیں اور باقی یورپیوں سے اور دوسرے محکموں میں زیادہ تناسب بندوستانیوں کو دیا جائے۔

حکومت نے کمیشن کی سفارشات پر معمولی رد و بدل کیے ساتھ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بندوستانیوں کا آئی۔ سی۔ ایس میں داخلہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ ۱۹۲۲ء میں مقابلے کے امتحان کی برطانوی بند میں تنافذ سے بھی اس عمل کو فروغ ملا۔ لندن پھر حال آئی۔ سی۔ ایس میں داخلے کا خاص راستہ رہا۔ لیکن اب بندوستانی نوجوان آئی۔ سی۔ ایس کے مقابلے کے لیے لندن جانی بھی خلاف تھیں۔ ۱۹۲۵ء سے حکومت بند نئے مختلف ملازمتوں میں فرقہ وارانہ نمائندگی کی قطعی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔

نامزدگی کے نظام میں محدود مقابلے کی آمیزش کی جائے۔ بندوستانیوں کے اعلیٰ ملازمتوں میں داخلہ سے متعلق کمیشن کی سفارشات ان پر عمل درآمد ہوتی سے قبل ہی بیکار ہو گئیں۔ اس کی وجہ برطانیہ کے دارالعلوم ۳۰ اگست ۱۹۱۷ء کو برطانوی بند میں برطانوی حکومت عملی کے مقصد سے متعلق دیا گیا ایک نہایت اہم بیان تھا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ بُر میجھی حکومت کی حکومت عملی جس سے حکومت بند یورپی طرح متفق ہے یہ ہے کہ خود مختار اداروں کو ریادہ مربوط کیا جائے تاکہ بندوستانی میں ایک خود مختار حکومت سلطنت برطانیہ کے جزو لازم کے طور پر بذریعہ قائم ہو سکے۔ اس تاریخی بیان کا مقصد اقتدار بذریعہ بندوستانیوں کو منتقل کرنا تھا۔ اس لیے اعلیٰ انتظامیہ کو بندوستانی بنائی کی منورت حائل ہو گئی۔ بندوستانی صوبوں میں ذمہ دار حکومت کا نفاذ افسر شاہی کی حکمرانی میں بذریعہ کمی کی طرف لے جاتا۔ اعلان ایک باب کے خاتمے اور برطانوی بند میں سول ملازمتوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کی ابتداء ثابت ہوا۔

### ۳۔ مانیکو چیمفورد رپورٹ (۱۹۱۸ء)

مانیکو چیمفورد رپورٹ نے بندوستانیوں کے اعلیٰ ملازمت میں داخلے سے متعلق ایک آزاد پالیسی اختیار کرتے کی وکالت کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ برطانوی بند میں پہلک ملازمت میں تقرر کا ایک ایسا نظام ہوتا چاہیے جو یورپیوں اور بندوستانیوں کے لیے یکسان کوہلا ہو۔ آخر میں رپورٹ میں آئی۔ سی۔ ایس اور دوسری اعلیٰ ملازمتوں میں بندوستانیوں کے لیے خاص تناسب کی تجویز پیش کی گئی۔

۱۹۱۹ء کی ایک سے بیوروکریسی کے اختیار میں بذریعہ کمی آگئی جس کے تبعیج میں اختیار اور شہرت کی کشش کو بہت نقصان پہنچا۔ اصلاحات کی شروع کیے سالوں میں سول ملازمین پر مجلس مقننہ کی طرف سے تنقید کا جو اکثر کم علمی، پر مبنی تھی حوصلہ شکن اثر ہوا۔ سیاسی مقابلہ الرائے غیر مستحكم رہا۔ ۱۹۲۱ء کی عدم تعاون تحریک نئے صلحی سربراہ اور پولیس اینکاراؤن کا کام ضیر معمولی طور پر مشکل کر دیا۔ اس کے تبعیج میں آئی۔ سی۔ ایس اور دوسری اعلیٰ ملازمتوں کے لیے لندن میں مقابلے کے لیے برطانوی امیدواروں کی تعداد گرنی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف اعلیٰ ملازمتوں میں بندوستانیوں کو لینے کا عمل جو ۱۹۱۹ء میں اختیار کیا تھا اس کی شرح بندوستانیوں کی نگاہ میں ناکافی اور تک نظری پر مبنی تھی۔ اس لیے اشد ضرورت اس بات کی نہی کہ اس کا اور

ضروری سمجھا گیا۔  
تیسرا چیز جس کا ان جمیتوں نے جائزہ لیا وہ ملازمتوں میں مختلف فرقوں کی نمائندگی سے تعلق رکھتا تھا۔ چونہا ابم سوال جس پر غور کیا وہ سول ملازمین کے لئے آئسی تحفظات اور جائز حقوق اور مفادات کی حفاظت کی لیے کافی گنجائش رکھنے سے متعلق تھا۔ ان جمیتوں نے پر زور سفارش کی کہ دستور میں تمام سول ملازمین کے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کی لیے، بالخصوص ان کے جنہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھرتی کیا ہے، کافی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس خواہیں کا بھی اظہار کیا گیا، کہ یہ بات واضح کر دینا چاہیے کہ کل بند، مرکزی اور صوبائی ملازمین لازماً تاج برطانیہ کی ملازم ہیں۔ توقع کی گئی تھی کہ ان کی حیثیت کی اس طرح کی وضاحت ایک صحت مند اور شاندار روایت کو جیسا کہ برطانیہ میں نہما فروع دینے میں مدد دے گی اور سول ملازمین، وزراء اور مجلس قانون ساز کے درمیان نظم و ضبط رکھئے گی۔

آخر میں بھرتی کا اعلیٰ معیار قائم رکھنے اور اس کے ذریعے انتظام میں صلاحیت کو یقینی بنانے میں پبلک سروس کمیشن کے روپ کی اہمیت ان تینوں نے جانتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بھرتی سے متعلق فن کام سے وزیروں کو آزاد کر دینا چاہیے کونکہ یہ ان کی فرائض کا حصہ نہیں ہے اور ان سے ابم بات یہ کہ انہیں اپنی پوزیشن کو اپنے خاندان اور فرقے کے مفادات کی حمایت کرنے کے الزام کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے یہ الزام ہے بنیاد ہی کیجوں نہ ہوں۔

#### ۸۔ غیر معہودہ سول ملازمت

اب ہم ملازمت کی دوسرے ابم پہلو کی طرف آئے ہیں یعنی اس ملازمت کی نمو جو سول ملازمت کی غیر معہودہ سول ملازمت کہلاتی۔ غیر معہودہ کی اصطلاح کی ابتداء میں غالباً معہودہ سول ملازمین سے امتیاز کی غرض سے استعمال کی گئی تھی۔ کہہنی کے علاقوں کی توسعے، حکومت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور معہودہ سول ملازمین کی محدود تعداد نے افسران مجاز کو مجبور کر دیا کہ وہ معہودہ ملازمت کے باہر سے زیادہ تعداد میں لوگوں کا تقرر کریں۔ غیر معہودہ ملازمین کی اکثریت کا تقرر بذریعہ نامردگی عمل میں آیا۔ کچھ نامردگیاں محدود مقابلے کے امتزاج سے کی گئیں اور چند کھلی مقابلے کے ذریعے غیر معہودہ ملازمین کے مختلف زمروں کی ملازمت کی مقرر کردہ شرائط بھی تسلی بخش نہیں ہوتی۔

#### ۶۔ پبلک سروس کمیشن (۱۹۲۶ء)

برطانوی بند میں ایک پبلک سروس کمیشن ۱۹۲۶ء میں قائم کیا گیا۔ ۱۹۱۹ء کی ایک میں ایسے کمیشن کی گنجائش موجود تھی۔ لی کمیشن نے بھی ایسے ادارے کی بلا تاخیر قیام کی زیردست سفارش کی تھی تاکہ سیاسی ملازمین کے انتخاب کو سیاسی اور ذاتی اثرات سے بچایا جا سکے۔ پبلک سروس کمیشن جب قائم کیا گیا تو اس کو نہ صرف برطانیہ میں سول سروس کمیشن کی طرح بھرتی کا کام سونپ دیا گیا بلکہ اس کو حکومت کو دو اہم معاملات میں مشورہ دینے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ وہ تھے ملازمتوں کا انتظامی اختیار اور ان کی حفاظت۔

#### ۷۔ سائمن کمیشن (۱۹۳۰ء) اور گول میز کانفرنس (۱۹۳۱-۱۹۳۰ء)

بیسویں صدی کے تیسرا عشرہ کے شروع میں برطانوی بند میں ملازمتوں کو نین اہم جماعتوں کی توجہ ملی۔ سائمن کمیشن نے سفارش کی کہ آئی۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ بی اور آئی۔ ایم۔ ایس میں بھرتی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کرنا چاہیے اور ان کی ملازمت کی شرائط اس کے باہم میں رہنا لازم ہے۔ گول میز کانفرنس کی ذیلی کمیٹی کا خیال تھا کہ آئی۔ سی۔ ایس اور آئی۔ بی۔ کی بھرتی کل بند بیاناد پر یونی چاہیے لیکن چند اراکین کو اس سے اختلاف تھا۔ ذیلی کمیٹی کا یہ بھی خیال تھا کہ آئی۔ ایم۔ ایس۔ کی کوئی سول شاخ نہیں ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ برطانوی سول ملازموں اور ان کے کہنے کے علاج کے متعلق برطانوی ذاکڑوں کا تقرر برطانوی بند کی حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں تک آئی۔ بی (Irrigation Branch) اور آئی۔ ایم۔ ایس۔ کا تعلق ہے سائمن کمیشن نے ان کے کل بند کردار پر زور دیتے ہوئے مستقل برطانوی بند میں افسران مجاز کی غور کی لیے چھوڑ دیا تھا۔ ذیلی کمیٹی اور دونوں ایوانوں کی شریک مجلس منتخب نے سفارش کی کہ انہیں صوبائی بنا دینا چاہیے۔

دوسرا پہلو جس پر ان جمیتوں نے بحث کی وہ ان ملازمتوں کے بندوستانی بنانے سے متعلق تھا۔ ان ملازمتوں میں ایک مضبوط برطانوی جزو نہ صرف انتظامی صلاحیت کے لیے بلکہ ایک ایسے ملک میں جہاں بندوں اور مسلمانوں میں سخت چیقلش رہتی تھی غیر جانبداری اور مقصدیت کو یقینی بنانے کی غرض سے بھی

بندوستانیوں کا تناسب جاری رہے گا۔ آئی۔ ایس کی سول شاخ کو قائم رکھنا تھا جب کہ دوسری تمام کل بند ملازمتوں کو صوبائی بنا دیا گیا۔ مختلف ملازمتوں کے لئے جو تناسب رکھا گیا تھا وہ واضح ہو گیا۔ کم ۱۹۲۵ کے ایکٹ میں یہی سروس کمیشن کی تشکیل اور کام سے متعلق مفصل باتیں شامل تھیں۔

### ۱۱۔ پیشہ ورانہ معیار

برطانوی بند میں سول ملازمین خصوصاً آئی۔ سی۔ ایس اور دوسری اعلیٰ ملازمتوں کے اراکین نے دیانت، ایمانداری، اخلاق، ابتداء کاری (initiative)، مقصدیت اور اپلیت کا عمدہ معیار قائم کیا تھا۔ آئی۔ سی۔ ایس نے بطور (Corps delite) ایسی روایت قائم کی جس کی اتباع دوسرے رہنمے کے ملازمین نے کی۔ تابع نچلی سطح پر معیار یکسان بلند نہیں تھا۔ بیسوں صدی کی دوسرے عشرے سے چونکہ ان کے کام پسچیدہ اور مشکل بولنے جا رہے تھے سول ملازمین میں پیشہ ورانہ معیار زوال کی طرف مائل رہا۔ نچلی سطح پر ہے رجحان زادہ تعابیں رہا۔ دیانت اور صلاحیت کی پستی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ سیاسی تحریکوں اور شورشوں نے جو چارحانہ اور مستشدد ہوتی جا رہی تھیں حکومت وقت کو مجبور کر دیا کہ وہ انہیں دیانت کیے لے سول ملازموں کو استعمال کرے۔ سول ملازمین کو تنازعات اور تخلفوں کا سامنا تھا۔ ان کو لعنت ملامت اور حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ۱۹۲۶ تک صورت بہت تارک ہو گئی۔ بڑے عہدے کے ملازمین کو اپنے مستقبل کی بارے میں تشویش نہیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کی حیثیت زیر نویس نگران کی سی ہے۔ اس لیے وہ بالکل مایوس تھے۔ بندو مسلم آوریش اور تلخی کی بڑھتی ہوتی رفتار نے ایسی کھینچا تانی اور دباو پیدا کیا کہ ان کے حوصلے اور دیانت پر ناموقن اثر پڑا۔ ایک فرقہ میں تعلق رکھنے والے سول ملازمین کو ان迪شہ رہنے لگا کہ دوسرے فرقے کے اراکین ان کے خلاف جانبداری اور امتیاز برت رہیں۔ کچھ سول ملازمین جو فرقہ کی بنیاد پر بھرتی کیے گئے تھے وہ سیاسی اثرات کا شکار ہو گئے اور اپنے کام میں کسی حد تک مقصدیت کھو بیٹھے۔ میں نے لکھا کہ ملازمتوں کے کچھ اراکین کم سے کم اونچی سطح والے، اپنی روانی وفاداری اور غیر جانبداری چھوڑ بیٹھے ہیں اور کھلماں کھلا سیاسی تنازع کی طرفداری کرنے لگئے ہیں۔ دستور ساز اسمبلی میں کم و بیش اسی قسم کا بیان سردار عبدالرب نشر نہیں ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ مسلمان سرکاری ملازمین سے موقع کرتی ہے کہ وہ پاکستان قائم کرنے میں اسی طرح مدد کریں گے جیسے کانگرس بندو سرکاری ملازمین کی خدمات استعمال کر رہی ہے۔ آخر میں دوسری عالمی جنگ سول

### ۹۔ سول ملازمت کا بندوستانی بنایا جانا (۱۸۵۶-۱۹۲۰)

اعلیٰ ملازمتوں کو بندوستانی بنایا جانا کافی عرصہ سے ایک متازعہ سوال رہا۔ اعلیٰ انتظامی اسامیوں کو برطانوی باتیوں میں رکھنے پر کچھ دور اندیش برطانوی تنظیموں نے سخت تنقید کی۔ منرو (Munro) اسی بات پر یقین رکھتا تھا کہ آخر الامر خود اختیاری حکومت کے لئے بندوستانیوں کو تربیت کا موثر طریقہ یہ ہے کہ ایم عہدوں پر ان کو ملازم رکھا جائے اور ان کو زیر حکومت کیسی بھی اسامی کے لئے اپل بنایا جائے۔ مالکم (Malcolm) ایلفنٹن (Elphinstone) اور بہری لارنس (Henry Lawrence) کا بھی یہی خیال تھا۔ برطانوی بند میں افسوسیں صدی کے تیسرا عشرہ میں مغربی تعلیم پہلیتے ہی ان بندوستانیوں نے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اعلیٰ جگہوں پر زادہ ملازمت دینے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ۱۸۵۲ء کے ایک نے بدایت کر دی کہ کوئی بندوستانی انتظامیہ میں کسی عہدے پر مامور ہونے سے مذہب، جائی پیدائش، خاندان یا رنگ کی وجہ سے معدور نہیں کیا جائی گا لیکن یہ سق ایک "لاؤرٹ خط" ہی رہیں اسی لیے کہ بندوستانیوں کو معہودہ سول ملازمت میں داخلے کا کوئی موقع فراہم نہیں کرتی تھی۔

جب ۱۸۵۲ء کے ایک نے معہودہ سول ملازمت میں داخلے کے لئے مقابلے کی امتحان کا طریقہ متعارف کیا تو میکالی اور کچھ دیکر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بندوستانی کھلے دروازے سے آئے کے قابل ہو جائیں گے۔ عملًا سفر کی مشکلات، خروج کا سوال بندوں میں سمندری سفر کے خلاف مذہبی اعتراضات، برطانوی بند میں سہولتوں کا فقدان برطانیہ میں حالات زندگی سے نسبتاً لاغتمی اور والدین کی اپتے بیٹوں کو کم عمر میں غیر ملک میں بھیجنے کے لئے نازصاندی نے رکاوٹیں پیدا کر دیں اور بندوستانیوں کے برطانوی امدادواروں کے ساتھ برابری کی شرائط پر مقابلہ کرنے میں مراحم رہیں۔

### ۱۰۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (۱۹۲۵)

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۲۵ء میں دو قسم کے سول ملازمین کے حقوق اور مقادمات کے تحفظ کے لئے مفصل گنجائش رکھی گئی تھی۔ ایک قسم وہ جسے سیکرٹری آف استیٹ نے بھرتی کیا تھا۔ دوسری وہ جسے برطانوی بند کی بست مجاز نے بھرتی کیا تھا۔ دستاویز بدائیات (Instrument of Instructions) میں جو گورنر جنرل اور گورنروں کو جاری کی گئیں کہا گیا کہ آئی۔ سی۔ ایس۔ اور آئی۔ بی۔ میں جو بھرتی سیکرٹری آف استیٹ کرے گا۔ لی کمیشن کا تقرر کردہ

ملازمین کے پیشہ ورانہ معیار پر اثر اقتدار ہوئی۔ خصوصاً نجی سطح پر، زمانہ جنگ کی مہنگائی اور نچلی درجہ کے ملازمین کی تنخواہ نہ مل کر ان کے لئے بہت مشکلات پیدا کر دیں اور ان میں سے کچھ رشوت کی تحریص کے شکار ہو گئے۔

#### ۱۲۔ آزادی کے بعد صورت حال

۱۹۶۷ء میں برطانوی بند کو دو آزاد مملکتوں بنگال اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا اور دونوں کو مکمل سیاسی اقتدار منتقل کر دیا گیا۔ سیکرٹری آف استینٹ کا آئی۔ سی۔ ایس اور آئی۔ سی میں بھرتی اور انصباط کا اختیار ختم ہو گیا۔ اعلیٰ ملازمتوں کے برطانوی ارکین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں مملکتوں میں سے جس میں چابیں خدمات انجام دیں یا مناسب پنسن اور آبادکاری انعامیہ (Rehabilitation Gratuity) پر فارغ خدمتی لے لیں۔ سیکرٹری آف استینٹ ملازمتوں کے کچھ ارکین کو ایسا ہی اختیار کچھ حد بندیوں کے ساتھ دیا گیا تھا۔ اس طرح برطانوی بند کی تقسیم کے ساتھ ملازمین بھی دونوں مملکتوں میں تقسیم ہو گئیں۔

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:** [www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

(ضمنیم)

## کل پاکستان ملازمت

### آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ۱۹۷۳ سے اقتباسات

#### حصہ ۱۲۔ باب اول۔ ملازمین

(۱)۔ پشرط آئین پاکستان کی ملازمت میں تقریرات اور ملازموں کی ملازمت کی شرائط کا فیصلہ مندرجہ ذیل طریقہ سے کیا جائے گا۔  
(الف) وفاق کی ملازمتوں کی معاملہ میں وفاق اور کل پاکستان ملازمتوں کی امور سے متعلق اسامیوں کے سلسلے میں بذریعہ یا زیر ایکٹ پارلیمنٹ، اور

(ب) صوبے کی ملازمتوں کے معاملے میں اور صوبے کے امور سے متعلق اسامیوں کے سلسلے میں بذریعہ یا زیر ایکٹ صوبائی اسمبلی۔

توضیح: اس دفعہ میں کل پاکستان ملازمت کا مطلب وہ ملازمت ہے جو وفاق اور صوبوں میں مشترک ہو جو کہ آئین کے نفاذ کے دن سے قوراً قبل موجود تھی یا جو بذریعہ ایکٹ پارلیمنٹ تخلیق کی جاتے۔

#### باب پنجم۔ تشریح

"پاکستان میں ملازمت" کا مطلب ہے وفاق یا صوبے کے معاملات سے متعلق کوئی ملازمت، اسامی، یا منصب ب شامل کل پاکستان ملازمت، افواج پاکستان کی ملازمت اور کوئی دوسری ملازمت جو پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کے تحت پاکستان کی ملازمت ظاہر کی گئی ہو۔ لیکن اس میں ملازمت بطور اسپیکر، نائب اسپیکر، چیئرمین، نائب چیئرمین، وزیراعظم، وفاقی وزیر و وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر یا ایوان پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن شامل نہیں۔

(ج) بارہ وہ افسران جو ابتدا میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مسلح افواج سے بھرتی کئے گئے تھے۔

(د) وہ افسران جو فی الوقتی بنیاد پر صوبائی سول ملازمتوں سے بھرتی کیے گئے تھے جن کی تعداد بر صوبی میں میں۔ ایس۔ بی کے لیے محفوظ اسامیوں کے دس فی صد سے مت加وز نہیں تھیں۔

### ۳۔ سی۔ ایس۔ بی میں بھرتی کا طریقہ

شروع میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سی۔ ایس۔ بی میں مندرجہ ذیل ذرائع سے بھرتی کی جاتی گی:

(الف) فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو سالانہ امتحان لے گا اس کی بنیاد پر انتخاب

(ب) مسلح افواج سے موزون افسروں کا انتخاب بذریعہ ایف۔ بی۔ ایس۔ سی۔ کل بھرتی کا دس فی صد کی شرح سے بشرطیکہ کم سے کم دو افسر ضرور لیتے جائیں۔ بعد میں ۱۹۵۰ء میں جب ملازمت کی تشکیل کو قانونی بنیاد فراہم کر دی گئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ائمہ تمام بھرتی برائے راست کمیشن کے مقابلے کے امتحان کے ذریعے سی۔ بی۔ گئی۔

ملازمت میں سالانہ عموماً بیس افسر لے جاتے تھے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوتے تھے ان میں سے صدر مملکت صوبائی حصوں (quotas) کی بنیاد پر تقرر کرتے تھے۔ خواتین ملازمت میں تقرر کی اپل نہیں تھیں۔ ۱۹۷۲ء میں ایف۔ بی۔ ایس۔ سی کے اعلان کئے مطابق وہ اپل فرار پائیں۔

۱۹۶۱ء میں ایک فیصلے کے مطابق کچھ افسر مسلح افواج سے سی۔ ایس۔ بی۔ لے گئے تھے۔

### ۴۔ کادر کی ترتیب اور اسامیوں کی تقسیم

ملازمت کی کادر میں مندرجہ ذیل اسامیاں شامل کی گئیں:

(الف) قل آزادی سویبوں میں آئی۔ سی۔ ایس کے کادر میں اسامیاں۔

(ب) سابق آئی۔ بی۔ ایس کے کادر میں شامل اسامیاں۔

(ج) مرکزی سیکریٹیٹ کی اعلیٰ اسامیوں میں سے بیشتر۔

اس طرح تشکیل دیتے ہوئے کادر میں کل اسامیوں کی تعداد ۲۸۲ تھی جو بعد میں بڑھا کر ۱۹۶۶ء میں ۵۹ کر دی گئی۔ کادر میں اعلیٰ اور صغار دونوں قسم کی اسامیاں شامل نہیں۔ صدر مملکت کی منظوری سے کادر میں سے

### (الف) آزادی سے قبل

#### I.C.S (اندیں سول سروس)

آزادی سے قبل آئی۔ سی ایس ایک منفرد ملازمت تھی جو متعدد کاڈروں میں صوبائی بنیاد پر منقسم تھی۔ ملازمت کی افسران مختلف صوبوں کو تقسیم کر دیتے جاتے تھے اور وہ اپنی پوری ملازمت کے دوران اپنے اپنے صوبے کے آئی۔ سی۔ ایس کاڈر کے رکنی رہتے تھے۔ مرکزی حکومت کی ضروریات ای افسروں کو صوبوں سے مستعار الخدمتی کے ذریعے پوری کی جاتی تھی۔ اس کی علاوہ اندیں پولیسکل سروس (I.P.S) تھیں جن میں بھرتی اصلاح آئی۔ سی۔ ایس۔ اور پندوستانی فوج سے بھوتی تھیں۔

### (ب) آزادی کے بعد

#### P.A.S (پاکستان ایڈمنیسٹریٹو سروس)

آزادی کے فوراً بعد پاکستان ایڈمنیسٹریٹو سروس (P.A.S) تشکیل دی گئی۔ اس ملازمت میں جو لوگ اے گئے وہ ان امدادواروں میں سے تھے جن کا انتخاب آزادی سے قبل مرکزی اعلیٰ ملازمتوں کے لیے امتحان کی بنیاد پر ہوا تھا اور جنکی ملازمت کے امدادواروں (War Service Candidates) میں سے تھے۔

#### C.S.P (سول سروس آف پاکستان)

۱۹۵۰ء میں حکومت پاکستان نے سروس آف پاکستان (C.S.P.) بنانے کا فیصلہ کیا جو سابق آئی۔ سی۔ ایس کی جگہ لے سکی۔ مگر اس فرق کے ساتھ کہ بھائی صوبائی کاڈر کے این کا مرکزی کاڈر، بی۔ اور صوبائی حکومتوں کی ضرورت مرکز سے مستعار الخدمتی کے ذریعے پوری ہو۔

شروع میں یہ صرف انتظامی (Executive) ملازمت تھی مگر ۱۹۵۶ء میں فیصلہ کیا کہ اس کی ایک آزادی (Judicial) شاخ بھی ہونی چاہیے۔

ملازمت کی ابتدائی تشکیل مندرجہ ذیل سے عمل میں آئی۔

(الف) سابق آئی۔ سی۔ ایس اور سابق آئی۔ بی۔ ایس کے افسران جو پاکستان میں اپنی قل آزادی ملازمت کی تسلیل میں خدمات انجام دے رہے تھے (جن کا بی۔ ایف۔ ایس میں تباہہ ہوتے والا تھا ان کے علاوہ)

(ب) وہ افسران جن کا تقرر بی۔ ایس میں ہوا تھا۔

- ۱۔ قواعد آزمائش (Seniority) تربیت اور تقدم (Probation)
  - ۵۔ تنخواہ بنشمول خصوصی تنخواہ، اور
  - ۶۔ قواعد فارغ خدمتی (Retirement)، زبان الاؤٹس وغیرہ وراثت دا خلد مندرجہ ذیل امور کی ذمہ داری
  - ۱۔ مستقل۔
  - ۲۔ بین الصوبائی تبادلے اور مرکز میں تعیناتی
  - ۳۔ بی۔ ایس۔ بی افسروں کی وردی۔
  - ۴۔ انتظامی معاملات۔
  - ۵۔ اپیل اور عرض داشت۔
  - ۱۰۔ مئی ۱۹۶۱ کو بی۔ ایس۔ بی سے متعلق تمام کام عملہ ڈوپر کو مستقل کر دیا گیا۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق بی۔ ایس۔ بی کے کادر میں شامل اعلیٰ اسامیوں کا ۲۵ فی صد صوبائی پولیس ملازمت کے افسروں کو ترقی دے کر وفاقي پبلک سروس کمیشن کے مشورے سے پر کی جاتی تھیں۔ اب یہ نسبت بڑھا کر ۲۲۔۱٪ فی صد کر دی گئی ہے۔ کادر کی باقی اسامیان مرکزی اعلیٰ ملازمتوں کے لیے امتحان منعقدہ وفاقي پبلک سروس کمیشن کے نتائج کی بنیاد پر براء راست بھرتی کے ذریعہ پر کی جاتی ہیں۔
- انتظامی اصلاحات کے نتیجے میں بی۔ ایس۔ بی کی بجائے پولیس گروپ ۲۱ مئی ۱۹۷۵ کو تشكیل دیا گیا۔ مگر اب پھر اس کا نام بی۔ ایس۔ بی رکھ دیا گیا ہے۔

### ۷۔ ابتدائی بھرتی

کادر کی اسامیوں پر ابتدائی تقرر بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۷ میں کمیشن کے منذکرہ بالا امتحان کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان کے کپتان اور سینجر کے عہدے کے افسران بھی ملازمت میں تقرر کے اہل ہیں۔ یہ تقرر حکومت کے تحریر کردہ طریق کار کے مطابق کادر میں ان کے لیے مختص کردہ اسامیوں پر ہوتا ہے۔ صوبائی پولیس کادر کے ممبران کا بی۔ ایس۔ بی میں تقرر صوبائی گورنر کی سفارش پر کیے گئے انتخاب کی بنیاد پر عمل میں آتا ہے۔ بشرطیک صوبائی پولیس کے ممبران کا تقرر اس صوبے کی اعلیٰ اسامیوں کی تعداد کے جو کادر میں شامل ہیں ۱۰ فی صد سے تجاوز نہ کرے۔

وقتاً فوقاً کوئی اسامی نکالی جا سکتی تھی یا اس میں شامل کی جا سکتی تھی۔ صوبائی اسامی کے معاملے سے گورنر سے مشورہ ضروری نہماں۔

- ۵۔ کادر کی اسامیوں کی تقسیم
- کادر میں اسامیوں کی تقسیم سی۔ ایس۔ بی۔ (تشکیل و کادر) قواعد ۱۹۵۳ کی رو سے کی گئی تھی۔ کادر و قواعد میں اب تک اتنی تراجمی کی جا چکی ہے کہ ان کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اس وجہ سے ان کی تفصیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ ملازمت کی دونوں شاخوں یعنی انتظامی اور عدالتی میں جو اعلیٰ اسامیان شامل تھیں ان کی تقسیم کے لیے باقاعدہ نسبت مقرر کی گئی تھی اور مختلف ذرائع سے اسامیاں پر کی جاتی تھیں۔ ان ذرائع سے سی۔ ایس۔ بی کے افسران صوبائی ملازمتوں کے انتظامی اور عدالتی شاخ کے افسران اور دوسرے افسران شامل تھے۔ عدالتی شاخ کی اسامیان صوبائی عدالتی شاخ کے افسروں کے علاوہ وکلا، کے تقرر سے بھی پر کی جاتی تھیں۔ کسی صوبے میں انتظامی شاخ کی اعلیٰ اسامیاں جو صوبائی سول ملازمت (P.C.S.) انتظامی شاخ کے لوگوں سے پر کی جاتی تھیں۔ وہ فہرستی اسامیاں (Listed posts) کہلاتی تھیں۔

### ۶۔ پولیس سروس آف پاکستان

سی۔ ایس۔ بی۔ کی طرح پولیس سروس آف پاکستان (P.S.P) بھی کل پاکستان ملازمت (All Pakistan Service) ہے۔ اس اصطلاح سے وہ ملازمت مراد ہے جو مرکز اور صوبوں میں مشترک ہو۔ گو اس ملازمت پر مجموعی اختیار وفاقي حکومت کا ہے تاہم اس کے کادر کو صوبائی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی انکے افسر جسے ایک بار کسی صوبے میں نامزد کر دیا گیا وہ اپنی پوری ملازمت کے دوران اس صوبے میں خدمت انجام دیتا رہے گا علاوہ اس بات کے کہ کسی اہم ضرورت کے تحت اسے مرکز یا کسی اور صوبے میں کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ ۱۹۳۷ سے ۲۵ دسمبر ۱۹۵۸ تک یہ ملازمت وزارت داخلہ کے زیر انتظام رہی۔ نومبر ۱۹۵۶ میں ملازمت کے انتظام سے مندرجہ ذیل امور عملہ ڈوپر کو منتقل کر دیے گئے تھے۔

- ۱۔ بھرتی بنشمول بھرتی کے قواعد۔
- ۲۔ تربیت اور بی۔ ایس۔ بی کا آخری (Final) امتحان۔
- ۳۔ کادر کے قواعد۔

## فرہنگ اصطلاحات (Glossary) (انگریزی/اردو)

[www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com): مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی رزٹ کریں!

## فرہنگ اصطلاحات (Glossary)

(انگریزی/اردو)

### A

Ability test of	آزمائش استعداد	Assessment	تشخیص
Aptitude	برائی میلان طبع	Assumption	مفروضہ
Accessible	قابل رسائی	Attached Department	محکمہ ملحق
Accounts	حسابات	Audit and Accounts	محاسبہ و حسابات
Accounts Group	گروپ حسابات	Autonomous	خود اختار
Accused	ملزم	Authorised officer	افسر مجاز
Achievement	کارنامہ	Authority	حاکم مجاز
Ad hoc	فی الواقعی	Available	دستیاب
Adjudication	حکم	Awareness	اکاپس- علم
Adverse entry	مخالفانہ اندرج		

### B

Advertisement	اشتہار	Backward	پسمندہ
Advocate	وکیل	Balance	تواریں
Affairs	امور	Basic Pay Scale	بینادی، بیمانہ تنخواہ
Age limit	حد عمر	Behaviour	رویہ، طرز عمل
Aggravate	زیادہ کرنا، خراب کرنا	Black sheep	کالی بھیر
Allowance	بہتا	Board of Revenue	مجلس مال
All Pakistan Service	کل پاکستان ملازمت	Brain drain	اخراج النجال
All Pakistan Unified Grades	کل پاکستان متحده گریدز	Bureaucracy	عمال حکومت
Application	درخواست، اطلاق	Business of Government	کاروبار حکومت
Appointment	تقرر	By- Product	ضمنی پیداوار
Aptitude	میلان طبع		
Argument	دلیل		
Armed Forces	صلح افواج	Candidate	امیدوار
Article	دفعہ، مصنموں	Capital	دار الخلاف
Aspect	یہلو		

### C

Armed Forces	صلح افواج	Candidate	امیدوار
Article	دفعہ، مصنموں		
Aspect	یہلو		

Descriptive	بيانی	Employment	روزگار، ملازمت
Design of training	حاکم تربیت	Establishment	عملہ ذوبھن
Determine	تعین کرنا۔ فیصلہ کرنا	Division	اندازہ کرنا
Development	ترقبی۔ نشوونما۔ ترقیاتی	Evaluate	شهادت
Diligence	مستدی۔ محنت۔ ریاضت	Evidence	استہانا
Discipline	تادیب۔ انضباط	Exception	عامل۔ انتقامیہ
Discretion	صوابید	Executive	خروج۔ اخراجات
Discrimination	امتیاز	Expenditure	تشریح
Dismissed from service	ملازمت سے موقوف	Explanation	اقتباس
Disproportionate	غیر مناسب	Extract	
Distinguish	امتیاز کرنا	<b>F</b>	
District	گروہ صنیعی	Factor	عامل
Management Group	انتظام	Favouritism	جانبداری
Duplication of efforts	تکرار سعی	Federal	وفاقی
		Federal	وفاقی تحقیقاتی ادارہ
		Investigation Agency	
<b>E</b>		Federal	وفاقی متحده گریدن
Economic	معاشی	Unified Grades	
Economists and Planners Group	گروہ معالیہ دان و منصوبہ ساز	Feed back	اطلاع و اپسین
Effective	مؤثر	Field service	میدانی خدمت
Efficiency	کارکردگی۔ اہلیت	File	مسلسل
Efficiency bar	حد اہلیت	Final	آخری
Emigrant	تاریک وطنی	Financial	مالی۔ مالیاتی
Emigration	ترک وطن	Flexible	لچکدار
Element	عنصر۔ جزو	Foreign Affairs	گروہ امور خارجہ
Eligible	اہل	Group	
Emphasize	زور دینا	Formal	رسمی
Employee	اجبر۔ ملازم	From time to time	وقتاً فرقناً
Employer	آجر۔ مامور کرننے	Functional	فعلی

Censure	علامت	Conveyance	بہتا سواری/سواری
Centralization	مرکز۔ مرکزیت	allowance	الاویس
Centralized	متصرک	Convicted	سرایاں
Centre	مرکز	Coordination	ارتباط
Central Selection	مرکزی انتخابی	Corps de lite	اعلن افسرون کا دست
Board	بورڈ	Corrupt	بدچلن۔ رشتہ خور
Charter	منشور	Corruption	بد عنوانی
Circumstances	فرائیں	Cost of living	مصارف زندگی
Civil Procedure	مجموعہ ضابطہ	Countersigning officer	تصدیقی افسر
Code	دیوانی	Covenanted service	معہودہ ملازمت
Civil Servant	سول ملازم	Create	وضع کرنا
Classification of posts	اسامیوں کی درجہ	Critic	نافذ
Clause	بندی	Criticism	تنقید
Code of ethics	شق	Combination	بوچھل۔ بھاری
Combination	ضابطہ اخلاق	Common	گروہ کشم و آیکاری
Common	مرکب	Commerce and Trade Group	
Commerce and Trade Group	عام۔ مشترک	بیوپار	
Commercial	گروہ تجارت و تجارتی	Commercial	لواہت خط
Commitment	بایندی	Commitment	تکسیر مرکزیت
Commitment of resources	بایندی وسائل	Decline	انحطاط
Communalism	فرقة و ایت	Deficit	حسابے کی سرمایہ کاری
Communication	خبر رسانی	financing	
Comprehensive	جامع	Definite	قطعی
Conduct	طریقہ عمل۔ چلن	Demand	طلب۔ مطالہ
Conscious	شعوری	Departmental	محکمانہ کمیٹی
Constitution	دستور۔ تشکیل۔ ساخت	Promotion Committee	برائی ترقی
Consumer goods	اشیائی صرف	Departmental	محکمانہ کمیٹی
Control	نکرانی۔ صبط	Selection Committee	

Judicial	عدلی	Movable	متنقلہ
		Multi-level	کثیر الدرجات

## L

Labour	محنت مزدور-مزدوري	National Commission of Manpower	القومی کمیشن برائے سطح
Labour Department	محکمہ محنت	National Council of Manpower	قومی کونسل برائے افرادی قوت
Legacy	ورثہ	Commission of Education	تعلیم
Legal	قانونی	National Commission of Manpower	قومی کمیشن برائے افرادی قوت
Legislature	مقننه	National Council of Manpower	قومی کونسل برائے افرادی قوت
Level	سطح	National	قومی
Line Manager	خط متنظم	Council of Manpower	کونسل برائے افرادی قوت
Listed post	فرشی اسمائیں	Nature	نوعیت، فطرت
Long term	طویل المیعاد	Nepotism	کنبہ پروری
Loss	تقصیل	Non-cooperation	عدم تعاون
Loyalty	وقایتی	Notification	اعلان

## N

Labour	محنت مزدور-مزدوري	National Commission of Manpower	قومی کمیشن برائے سطح
Labour Department	محکمہ محنت	National Council of Manpower	قومی کونسل برائے افرادی قوت
Legacy	ورثہ	Commission of Education	تعلیم
Legal	قانونی	National Commission of Manpower	قومی کمیشن برائے افرادی قوت
Legislature	مقننه	National Council of Manpower	قومی کونسل برائے افرادی قوت
Level	سطح	National	قومی
Line Manager	خط متنظم	Council of Manpower	کونسل برائے افرادی قوت
Listed post	فرشی اسمائیں	Nature	نوعیت، فطرت
Long term	طویل المیعاد	Nepotism	کنبہ پروری
Loss	تقصیل	Non-cooperation	عدم تعاون
Loyalty	وقایتی	Notification	اعلان

## M

Major penalty	سرانہ کبیر	Observer	شاہد
Manager	منتظم	بیشہ ورانہ گروہ	سماحت
Manpower	افرادی قوت	Group	سماحت
Manpower	افرادی قوت ذیوریں	Office	گروہ دفتری انتظام
Division		Management Group	ادارہ، تنظیم
Measures	اقدامات	Organization	ادارہ، تنظیم
Mediation	وساطت	Organizational chart	تنظیمی نقشہ
Member	رکن	Ostentatious	نمائشی، ظاہری
Military Lands & Cantonments Group	فوجی اراضیات و جھاؤنی	Outline	حکم
Minor penalty	سرانہ صغیر	Overlap	(پیمانہ تتناخواہ)
Misconduct	بدکرداری، غلط روی		ایک دوسرے پہ کسی حد تک تطبیق
Morale	حوالہ اخلاقی حالت		
Motivation	تحمیک		

## O

Gazette	جريدة	Individual employees	انفرادی ملازمین
Gazetted Officer	جريدة افسر	Induction	داخلہ
Gift	تحفہ	Inefficient	نااپل
Governing Body	بیت حاکمہ	Inferior	ادنی
Government	قواعد کارکردگی و انصباط برائے سرویسیں	Informal	غیر رسمی
Servants Efficiency & Discipline Rules	سرکاری ملازمین	Information	اطلاع
Gradation	تدریجی مدارج	Information Group	گروہ اطلاعات
Grading	درجہ پندی	Inherent	ذاتی- خلقی
Grounds	موجبات سزا	Initial appointment	ابتدائی تقرر
Group	گروہ، جماعت	Initiate	ابتداء کرنا
Group	گروہی معلیٰ آزمائش situational test	Initiative	ابتداء کاری
Growth	نمو.	In pursuance of	تعصیل کرتے ہوئے
		Inquiry	تحقیقات
		Inquiry Committee	تحقیقاتی کمیٹی
		Inquiry Officer	تحقیقاتی افسر

## H

Hearing	سماحت	Interest	مفہود، سود
Hierarchy	نظام مراتب	Introduction	تعارف، نفاد
Honesty	ایمانداری	Instrument of Instructions	دستاویز بدایات
Human relations	انسانی تعلقات	Inter-provincial interviews	بین الصوبائی مواجهات
Human resources	انسانی وسائل	Investigation	تحقیقات

## I

Identify	شناخت کرنا	Investigation	تحقیقات
Identity	شناخت	Investment	سرمایہ کاری
Immovable	غير متنقلہ	Job analysis	تجزیہ کار
Implementation	عمل درآمد	Job description	تفصیل کار
Impression	تصور	Job specification	تصصیح کار
Incentive	ترغیب		
Income tax Group	گروہ محصول آمدنی		

## J

Removal from service	ملازمت سے بر طرفی	Service	ملازمت
Requisition form	فارم مطالہ	Settlement	تصفیہ
Reporting Officer	افسر اطلاع دیننے	Short term	قليل الميعاد
Representation	عرض داشت	Show cause	امہار وجہہ
Reputation	شهرت	Sincerity	راست بازی
Research	تحقیق	Skilled	پیغمدہ۔ مابر
Resources	وسائل	Social	معاشرتی
Retirement	فارغ خدمتی	Specialist	ماہر خصوصی
Revenue	محاصل۔ مالیہ	Specific	محصول۔ صريح
Revolution	انقلاب	Specification	تصريح
Right	حق	Speculation	ستا بازی
Riot	فساد	Stability	استحکام
<b>S</b>			
Salary	تحوہا	Standard	معیار
Sample	نمونہ	Statement of allegations	کیفیت الزامات
Scheduled	اچھوتوں ذات	Statistics	شماریات
caste	حدولی قوم	Structure	ڈھانچہ۔ ساخت
Secretary	معتمد	Sub-Centre	ذیلی مرکز
Secretarial	دیوان حکومت۔ معتمدی	Sub-committee	ذیلی کمیٹی
Section	دفعہ۔ صیغہ	Subject to	اس شرط کے ساتھ
Sector	شعب۔ حلقة	Subjectivity	داخلی کیفیت
Selection	انتخاب	Sub-let	ذیلی کرانے پر دینا
Self-reporting inventories	خود کیفیت نگار۔ فہرست اشیاء	Subversive activities	تخربی سرگرمیاں
Semi-autonomous	نئم خود مختار	Suitable	موزون
Senior post allowance	بہتا اعلیٰ اسمائی	Superior	اعلیٰ
Seniority	تقدیم	Supervision	ناظرت۔ نگرانی
		Supervisor	ناظر۔ نگران
		Supply	رسد۔ فراہمی

P	Provincial Unified Grades	صوبائی متعدد گریدز
Pakistan Penal Code	مجموعہ تعزیرات پاکستان	گنجائش۔ شرط
Particular	مخصوص	عارضی۔ مشروط
Party	فریب	اخلاق عامہ
Performance	کارکردگی۔ انجام دی	روایی عامہ
Periodical	میعادی	سرکاری شعبہ
Permit	اجارت نامہ	مقصد
Person specification	تصريح فرد	
<b>Q</b>		
Personality trait	شخص۔ خصائص	
Personnel	افراد	قابلیت
Personnel	افرادی انتظام	کیفیاتی ابیلیت
Administration	Qualitative efficiency	
Planning	کیفیت بندی	خوبی۔ وصف
Police Group	گروہ پولیس	مقدار
Post	اسامی	سے
Postal Group	گروہ ذاک	
Potential	خلقی استعداد	<b>R</b>
Power	اختیار	حد
Privilege	استحقاق	شرح
Probation	آزمائش	نسبت
Procedure	آزمائشی افسران	پہچاننا۔ اعتراف کرنا
Process	طریقہ کار	سفارش
Process	طریقہ۔ عمل	بھرتی
Profession	پیشہ	بازماموری
Projective	انعکاسی۔ اخلاقی	اصلاحات
Projective test	اخلاقی آزمائش	انعامیہ بحالی
Property	جائزداد	رشته
Provincial Civil Service	صوبائی سول ملازمت	

## Bibliography (کتابیات)

- Address of Pakistani Prime Minister to the Nation on 20th August, 1973.
- Careers in Pakistan Central Superior Services, 1954, P:3.
- Civil Servants Act, 1973.
- Civil Servants (Appeal) Rules, 1973.
- Civil Servants (Appointment, Promotion and Transfer) Rules, 1973.
- Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol. II, No.8 P:731.
- Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973.
- Ethics in Government, 1953, by P.H. Douglass, P:21.
- Federal Personnel Manual (USA) PP:62-71.
- Federal Public Service Commission Ordinance, 1977.
- Federal Public Service Commission (Functions) Rules, 1978.
- Government Servants (Conduct) Rules, 1964.
- Government Servants Efficiency and Discipline Rules, 1973.
- Manpower Planning by Israrul Haque.
- Office Management by Peterw. Betts.
- Pakistan (A Political Study), 1957 by K. Callard, P:154.
- Personnel Management by Shaun Tyson and Alfred Yorle.
- Public Personnel Administration, By Dr. Felix A. Stahl.
- Public Personnel Administration, by O. Glenn Stahl.
- Report of the National Commission on Education, 1958.
- Report of the Pakistan Pay Commission, Vol. I, 1949, P:79.
- Report of the Sub-Committee of Cabinet 1970, to study the problem of Un-employment.
- Second Five Year Plan of Pakistan (1960-1965)
- Other relevant rules, orders, instruction etc, issued by the Establishment Division from time to time.
- The Civil Service of Pakistan by Dr. Chaudhry Muzaffar Ahmad.

Surety	ضمانات	W
Syllabus	نصب	اجرت
System	نظام	امیدوار جنگی
		ملازمت
<b>T</b>		
Technical	فني- تکنيکي	کاتب
Technological	حرقتي- صنعت يابي	
Terms of reference	امور حواله	
Theoretical	نظري	
Theory	نظريہ	
Time-scale	اوقاتي پسماند	
Traditional	روایتی	
Training	تربیت	
Transaction	سودا- لین دین	
Transfer	تبادل	
Treatment	سلوک- برتاؤ	
Trend	رجحان- ميلان	
Tribe	قبيل	
Tribunal	معزل	
<b>U</b>		
Uncovenanted	غير معهود	
Understanding	مقاييس	
Unified	متحدة	
<b>V</b>		
Vacuum	خلاء	
Vocational	پيشہ سے متعلق (پيشہ وراثہ)	